

”تنامت الدت، الصرة و الكتاب، والسنة“ كا اردو ترجمه

# حج و عمره

كتاب وسنت كى روشنى مىں

السيف

محدث عمر شيخ محمد ناصر الدين البانى رحمه الله عليه



ذآكر عبد الرحمن يوسف  
(فاضل مدينه يونيورسٲى)

شعبه تحقيق و تاليف : مركز عمر بن عبد العزيز و فيفس، كراچى



نام کتاب : مناسک حج و عمرہ (کتاب و سنت کی روشنی میں)  
مولف : محدث العصر شیخ محمد ناصر الدین البانی (رحمہ اللہ)  
مترجم : ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف  
صفحات : ۱۰۸  
ناشر : مرکز عمر بن عبدالعزیز ڈیفنس، کراچی

اصلاہ السنہ  
ASIAHLESUNNET

:: [www.AsliAhleSunnat.com](http://www.AsliAhleSunnat.com) ::

## فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
7	1- عرض مترجم .....
10	2- حیات و خدمات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ .....
15	3- (ا) حج و عمرہ سے پہلے ضروری ہدایات .....
35	(ب) عمرہ کرنے کا طریقہ .....
35	4- احرام سے پہلے .....
38	5- احرام، اس کی نیت اور اس کے الفاظ .....
39	6- میقات .....
42	7- حج تمتع کی فضیلت .....
43	8- کسی مجبوری کی بنا پر مشروط احرام پہننا .....
43	9- ”وادی عقیق“ (ذوالحلیفہ) میں نماز پڑھنا .....

- 10- بلند آواز سے ”لَبَّيْكَ.....“ کا ورد اور اس کی فضیلت 46
- 11- ”لَبَّيْكَ.....“ کہنا کب ختم کریں؟ 52
- 12- مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل..... 53
- 13- مسجد حرام میں داخل ہونا..... 54
- 14- طواف زیارت اور اس کا طریقہ..... 56
- 15- حجر اسود اور اس کی فضیلت..... 57
- 16- رکن یمانی کی فضیلت..... 59
- 17- طواف کا طریقہ اور دعائیں..... 62
- 18- حجر اسود اور دروازے کے درمیان چمٹنا..... 63
- 19- مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا..... 64
- 20- آب زم زم پینا اور اس کی فضیلت..... 68
- 21- حجر اسود کے پاس دوبارہ آنا.....
- 22- صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا اور دعا کرنا.....
- 23- حج کا طریقہ.....

- 24- ۸ رذوالحجہ کو احرام پہننا اور منیٰ کے میدان میں جانا
- 25- ۹ رذوالحجہ کی عبادتیں.....
- 26- میدان عرفات کو روانگی.....
- 27- مسجد نمبرہ.....
- 28- میدان عرفات میں قیام اور اس کی دعائیں.....
- 29- میدان عرفات سے روانگی.....
- 30- ۱۰ اور ۱۱ رذوالحجہ کی درمیانی رات اور مزدلفہ میں قیام
- 31- (۱) مزدلفہ میں نماز فجر.....
- (ب) ۱۰ رذوالحجہ کی عبادت.....
- 32- مشعر حرام کے پاس جانا اور ذکر کرنا.....
- 33- منیٰ کو واپسی.....
- 34- بطنِ محشر میں سے گزرتے ہوئے تیزی سے چلنا
- 35- صرف ”جبرہ عقبی“ کو کنکریاں مارنا اور اس کا وقت
- 36- قربانی کرنا اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ اور دعا

- 37- اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ..... 83
- 38- (ا) قربانی کے گوشت کی برکت اور اس کا استعمال 85
- (ب) جو شخص قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے کیا کرنا ہوگا؟ 86
- (ج) طوافِ افاضہ (حج کا طواف)..... 90
- (د) مذکورہ کاموں کی ترتیب..... 93
- 39- ۱۲/۱۱ اور ۱۳ ذوالحجہ (ایام تشریق) کی عبادت..... 94
- 40- منیٰ میں رات گزارنا اور ایام تشریق میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے جانا اور اس سے مستثنیٰ لوگ..... 95
- 41- دن کے وقت ”جمرات“ کو کنکریاں مارنا اور اس کا وقت.....
- 42- دو دن کی کنکریاں ایک ہی دن مارنا.....
- 43- معذروں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے لئے رخصت.....
- 44- مسجد خیف میں نماز باجماعت پڑھنا..... 96
- 45- ۱۲ یا ۱۳ ذوالحجہ منیٰ میں گزارنے کے ساتھ حج کی تکمیل..... 97
- 46- حجر اسود کو بوسہ دینے کی فضیلت..... 98

- 98 -47 مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت
- 100 -48 طواف وداع اور مکہ مکرمہ سے واپسی.....
- 101 -49 آب زم زم تبرک کے لئے ساتھ لانا.....
- 102 -50 مسجد حرام سے نکلنے کا طریقہ اور دعا.....
- 103 -51 مسجد نبوی کی زیارت.....
- ' -52 مسجد قبا میں جانا.....
- ' -53 بقیع (مدینہ منورہ کا قبرستان).....
- 104 -54 جبل احد اور شہداء.....
- 105 -55 حج و عمرہ کی دعائیں.....

### عرض مترجم

حج بیت اللہ، ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جسمانی و مالی عبادت پر مشتمل یہ رکن عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ اور وہ بھی صاحب استطاعت افراد پر، اس لئے اس کے احکام اکثر و بیشتر مسلمانوں کے لئے اجنبی ہیں۔

ہر دور میں علماء اسلام نے فریضہ دعوت سے سبک دوش ہونے کے لئے ”مناسک حج“ پر مشتمل تصانیف مرتب کیں تاکہ تقاضائے وقت کے مطابق لوگوں کے لئے انہیں سیکھنا آسان ہو جائے۔ عصر حاضر کے مایہ ناز محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ! نے اس موضوع پر اپنے تحقیقی انداز کے

۱۔ شیخ موصوف کی زندگی میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا گیا تھا۔ اب وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی حیات و خدمات کا خلاصہ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔ (مترجم)



ساتھ ”مناسک الحج والعمرة“ کے نام سے ایک مختصر کتاب تصنیف کی ہے جو دراصل انہیں کی مفصل تصنیف ”حَجَّةُ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا رَوَاهَا عَنْهُ جَابِرٌ“ کا خلاصہ ہے۔ اس میں انہوں نے حج بیت اللہ، عمرہ اور زیارت حرمین شریفین سے متعلق تمام تر مسائل قرآن و حدیث کے حوالے سے آسان اور عام فہم انداز میں با ترتیب بیان فرمائے ہیں۔ اور حتی المقدور الفاظ حدیث کی پابندی کی ہے۔ علمی حلقوں میں یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جناب موصوف تحقیق حدیث کے سلسلہ میں سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ہر بات باحوالہ صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اس لئے اس کتاب کی افادیت دوچند ہوگئی ہے۔ اسی افادیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ اردو قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یہ ترجمہ 1985ء میں کیا گیا تھا۔ بوجہ اسے شائع نہیں کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب اسے قارئین کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔

یہ بات زیر نظر رہے کہ مصنف نے تمام تر حوالہ جات اپنی ذاتی کتابوں میں سے دیئے تھے۔ انہیں مزید آسان بنانے کے لئے اصل کتابوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کتاب، باب اور حدیث نمبر دے کر ذکر کیا گیا ہے۔ باقی تمام تر متن و حواشی مصنف کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ترجمہ و تخریج کی ادنیٰ کوشش کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔

صلی اللہ علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف

اسٹنٹ پروفیسر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

2 فروری 1999ء

## شیخ البانی کے سوانح حیات اور علمی و تحقیقی خدمات

یہ مناسب ہوگا کہ قارئین کے لئے مصنف کی شخصیت، علمی مرتبہ اور گراں قدر خدمات کو مختصر الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ آپ کے شاگردوں میں سے شیخ محمد بن ابراہیم شیبانی نے ”حیاء الالبانی و آثارہ و ثناء العلماء علیہ“ کے نام سے مستقل کتاب تحریر کی، اسی طرح شیخ مجذوب نے ”موجزة عن حياة الشيخ ناصر الدين“ کے عنوان سے ایک کتابچے میں آپ کے سوانح حیات قلم بند کئے۔ علاوہ ازیں مختلف عربی اور اردو رسائل و جرائد میں بھی شیخ کے حالات زندگی شائع ہوئے۔ انہی سے اقتباسات لے کر کچھ حالات یہاں ذکر کئے جا رہے ہیں۔

شیخ ناصر الدین کے ابتدائی حالات:

شیخ ناصر الدین 1914ء میں البانیہ کے دار الخلافہ ”اشقودرہ“ میں

پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الحاج نوح نجاتی تھا۔ وہ حنفی عالم تھے اور اپنی

عوامی خدمات، درس اور تقاریر کے باعث لوگوں میں عزت و شرف اور بلند

مقام حاصل کر چکے تھے۔ شیخ کا گھرانہ اگرچہ غریب تھا مگر دین پر قائم اور علمی اشتیاق کا حامل تھا۔ البانیہ کا اقتدار جب ”شاہ احمد زوغو“ کے ہاتھ آیا تو پوری سلطنت پر بے دینی اور مغربیت رفتہ رفتہ رواج پا گئی، لوگوں نے انگریزی لبا س زیب تن کر لیا، عورتوں نے پردہ اتار دیا۔ ان حالات میں شیخ کے والد نے اپنے دین کی حفاظت اور اخروی نجات کی غرض سے ہجرت کر کے شام کے دار الخلافہ دمشق کو اپنا مسکن بنا لیا۔

تعلیم و تربیت:

شیخ کچھ دیر دمشق کے ”مدرسہ الاسعاف الخیریۃ الابتدائیۃ“ میں تعلیم حاصل کرتے رہے لیکن پھر اس مدرسے میں آگ لگ جانے کے باعث ”سوق ساروجہ“ کے ایک مدرسے میں داخل ہو گئے۔ مدارس کے مروجہ تعلیمی نظام پر غیر مطمئن ہونے کے باعث شیخ کے والد نے خود ان کے لئے ایک تعلیمی پروگرام بنایا جو کہ صرف ’نحو قرآن‘ تجوید اور فقہ حنفی پر مشتمل تھا۔ شیخ نے اپنے والد کے رفقاء جو کہ اپنے زمانے کے شیوخ تھے سے بھی تعلیم حاصل کی، مثلاً شیخ راغب طباع رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ان کی تمام مرویات کی

اجازت حاصل کی تھی۔ اس طرح شیخ سعید برہانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے فقہ حنفی کی معروف کتاب ”مراقی الفلاح“ پڑھی تھی۔

شیخ کی عمر جب بیس سال ہوئی تو ’مجلۃ المنار‘ جو کہ شیخ محمد رشید رضا کی زیر نگرانی شائع ہوتا تھا، آپ کے مطالعہ سے گزرا۔ یہی وہ علمی و تحقیقی رسالہ ہے جس کے ذریعے آپ علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔

ابتدائی دور میں شیخ نے گھریلو ضروریات کی تکمیل کے لئے گھڑیوں کی مرمت کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا، لیکن علم حدیث میں رغبت کے بعد جمعہ اور منگل کے سواروزانہ صرف تین گھنٹے گھڑیوں کی مرمت کا کام کرتے باقی مکمل دن تقریباً چھ گھنٹے علم حدیث کے حصول اور تالیف و تصنیف کے لئے ”المکتبۃ الظاہریۃ“ میں موجود مختلف کتب و مخطوطات کا مطالعہ کرتے رہتے۔

یہ لائبریری آپ کے لئے بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی کیونکہ جب بھی آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی اور وہ آپ کو اپنے والد کے ذاتی کتب خانے (جو کہ زیادہ تر حنفی مسلک کی کتب پر مشتمل تھا) سے نہ ملتی اور آپ کے پاس اسے خریدنے کی بھی طاقت نہ ہوتی تو اس لائبریری میں تلاش کرنے سے

آپ کوئل جاتی۔ آپ کی محنت، جدوجہد اور علمی شوق دیکھتے ہوئے اس لائبریری کے علاوہ بعض دیگر لائبریریوں کے منتظم بھی آپ کو کچھ مدت کے لئے ادھار بلا اجرت کتابیں دے دیا کرتے تھے جس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ حدیث پر شیخ کی اس قدر محنت اور شغف کو دیکھ کر آپ کے والد اکثر خائف رہتے اور یہ کہتے رہتے کہ ”علم حدیث تو مفلس لوگوں کا فن ہے۔“ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شوق حدیث روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا حتیٰ کہ آپ ’المکتبۃ الظاہریۃ‘ میں روزانہ بارہ بارہ گھنٹے مطالعہ میں ہی مصروف رہتے۔ دریں اثنا صرف نمازوں کے لئے ہی باہر نکلتے۔ اکثر اوقات تو آپ تھوڑا بہت کھانا مکتبہ میں ہی تناول فرما لیتے۔ آپ کا یہ شوق دیکھ کر لائبریری کی انتظامیہ نے آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا جس میں آپ کے لیے ضروری کتب بھی فراہم کر دی گئیں۔ آپ صبح سویرے ملازمین سے بھی پہلے لائبریری میں پہنچ جاتے اور پھر عشاء کے بعد واپس آتے۔ ہر وقت کتاب پر نظر رکھتے، اگر کوئی شخص آپ سے مسئلہ دریافت کرتا تو اکثر اوقات کتاب سے نظر ہٹائے بغیر ہی جواب دے کر فارغ کر دیتے۔

اس محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ امام عراقی کی کتاب ”المغنی عن حمل الأ سفار فی الأ سفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الأخبار“ پر تعلیقات و حواشی ہیں۔  
دعوت حق اور علمی پروگرام:

چونکہ آپ کے والد حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور اکثر مسائل میں آپ کے مخالف تھے اس لیے آپ کی دعوت اس مسلک پر تنقید سے شروع ہوئی۔ آپ بے خوف و خطر یہ بات واضح کر دیتے کہ جب کسی مسئلے میں حدیث ثابت ہو جائے تو پھر کسی امام کی اتباع جائز نہیں۔ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں اور میل جول رکھنے والوں کے ساتھ ایک جگہ پر مخصوص دن میں اور شرعی مسائل پر گفتگو کرتے۔ جس طرح لوگ بڑھتے گئے اس طرح جگہ بھی تبدیل کی جاتی رہی بالآخر ایک گھر کرائے پر لیا گیا، لیکن وہ بھی بعد میں کم پڑ گیا۔

رفتہ رفتہ علاقے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کافی شہرت ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حاسدین کی ایک جماعت بھی تیار ہو گئی جن کے من گھڑت

الزامات اور جھوٹی گواہیوں کے باعث شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو دو بار جیل کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اس دوران اگر کوئی اختلافی مسئلہ پیش آجاتا تو کسی متعصب مسلکی عالم کے پاس سوائے شور و غوغا اور گستاخ و ہابی کہنے کے شیخ کے مقابلے میں کوئی ثبوت و دلیل نہ ہوتی۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علمی محفلوں کا بھی انعقاد کیا جن میں مدارس کے طلباء و اساتذہ سمیت خواتین بھی شرکت کرتیں۔ ان محفلوں میں جن کتب کے درس دیے جاتے ان میں فقہ السنۃ از سید سابق، الترغیب والترہیب از حافظ منذری، الروضۃ الندیۃ از نواب صدیق حسن خان، مصطلح التاریخ از آسدرتم، اصول الفقہ از عبدالوہاب خلاف، منہاج الاسلام فی الحکم از محمد اسد، الحلال والحرام از یوسف قرضاوی، فتح المجید شرح کتاب التوحید از عبدالرحمن بن حسن آل شیخ، الباعث الحثیث از احمد شاہ کر، ریاض الصالحین از امام نووی، اللامام فی احادیث الأحکام از ابن دقیق العید الأدب المفرد از امام بخاری اور اقتضاء الصراط المستقیم از امام ابن تیمیہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔



مدینہ یونیورسٹی میں تقرری:

شیخ کی تصنیفات ان کی شہرت کا باعث بنیں، بالخصوص اس لئے کہ انہوں نے اپنی تالیفات میں جو منج اپنایا تھا وہ خالص کتاب سنت ہی تھا۔ ہر مسئلے میں صرف انہی دونوں کو معیار و میزان بنایا گیا تھا۔ اس لئے جب مدینہ یونیورسٹی ”الجامعۃ الاسلامیہ“ قائم ہوئی تو اس کے چانسلر اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ نے جامعہ میں علوم حدیث پڑھانے کے لئے انہیں کو منتخب کیا۔ چنانچہ آپ 1961ء سے 1964ء تک تین سال جامعہ میں فرائض تدریس سرانجام دیتے رہے۔

دوران تدریس شیخ فارغ اوقات اور پریڈز کے وقفوں میں بھی طلباء کے درمیان بیٹھ کر علمی مباحث میں مشغول رہتے۔ اس قدر محنت اور طلباء سے نہایت شفقت کے باعث اکثر طلباء آپ سے نہایت والہانہ محبت کرنے لگے اور ہر وقت آپ کے ارد گرد جمع رہتے۔

مقام و مرتبہ اور علماء کی آراء:

علم حدیث میں شیخ کی گراں قدر اور ناقابل فراموش مساعی کے نتیجے میں مختلف ممالک میں آپ کا شہرہ ہو گیا۔ جس کی بنا پر آپ کو مختلف ممالک مثلاً: مصر، مراکش، انگلینڈ، قطر، متحدہ عرب امارات اور متعدد یورپی ممالک میں دروس و خطبات اور کانفرنسز میں شرکت کے لئے مدعو کیا گیا۔

شیخ مختلف مجالس اور کمیٹیوں کے رکن بھی رہے مثلاً نشر و اشاعت کے لیے مصر و شام کی مشترکہ کمیٹی ”لجنة الحديث“ کے رکن تھے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی کی مختلف کمیٹیوں کے بھی رکن تھے۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ یونیورسٹی کی سپریم کونسل کے لیے آپ کو ممبر منتخب کیا تھا۔ اور جامعۃ أم القرى میں ”قسم الدراسات العليا (Higher Studies) کے شعبہ حدیث کی نگرانی و سرپرستی کے لیے بھی آپ کو دعوت دی گئی۔

شیخ کے پاس دور دراز کے علاقوں اور بیشتر ممالک سے بڑے بڑے اہل علم اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے اور آپ انہیں ایسے تسلی بخش جواب فراہم کرتے کہ کتابوں کے جلد نمبر اور صفحہ نمبر تک کی وضاحت کر دیتے۔

شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہم عصر علما میں ممتاز مقام حاصل تھا۔ شیخ کے متعلق معاصر علماء مثلاً:

شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، سید محبت الدین خطیب، ڈاکٹر عمر سلیمان الأشقر، شیخ شفقیطی، شیخ مقبل الوداعی، شیخ عبدالصمد شرف الدین، شیخ زید بن عبدالعزیز الفیاض، شیخ البناء مصری، جیسے نامور علماء نے ناقابل فراموش الفاظ میں خراج تحسین دیا۔

شیخ کے مشہور شاگرد:

شیخ کے شاگردوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ کے شاگرد تصنیف و تحقیق، تدریس اور دعوت تبلیغ کے میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ ان میں سے شیخ محمد بن جمیل زینو، شیخ خلیل عراقی الحیانی، ڈاکٹر عمر سلیمان الأشقر، شیخ مصطفیٰ الزربول، شیخ عبدالرحمن البانی، شیخ مقبل بن ہادی الوداعی، شیخ زہیر شاویش، شیخ علی خشان، شیخ خیر الدین والی، شیخ عبدالرحمن عبدالصمد، شیخ عبدالرحمن عبدالحلق، شیخ محمد عید عباسی، شیخ حمدی عبدالجید سلفی، شیخ محمد ابراہیم شقرۃ، شیخ مشہور حسن آل

سلمان اور شیخ علی حسن حلبی قابل ذکر ہیں۔

شیخ کی تصنیفات، تعلیقات اور تخریجات:

شیخ کی تصنیفات، تعلیقات اور تخریجات سینکڑوں کی تعداد میں ہیں ان میں سے: صفة صلاة النبي ﷺ، أحكام الجنائز، تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة للسيد سابق، حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، صحيح وضعيف سنن أربعة، صحيح وضعيف الترغيب والترهيب، مختصر صحيح البخاري، مختصر صحيح مسلم، معجم الحديث النبوي، أحكام الجنائز، تحقيق مشكاة المصابيح للتبريزي، صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للسيوطي، إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل لابن ضویان زیادہ مشہور ہیں۔

## سانحہ وفات:

ایک عرصہ سے مسلسل بیمار رہنے کے باعث شیخ بے حد کمزور و نحیف ہو گئے تھے۔ لیکن حدیث سے والہانہ محبت کی وجہ سے آپ نے اپنی تصنیفی سرگرمیوں سے پھر بھی ہاتھ نہیں کھینچا اور جب خود لکھنے کی طاقت نہ ہوتی تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سے لکھوا لیتے۔ شیخ کے ایک شاگرد علی بن حسن حلبی کے بقول ”آخری ایام میں اگرچہ شیخ کا جسم بہت کمزور پڑ گیا تھا لیکن ابھی تک سلیم العقل اور پختہ قوتِ حافظہ کے مالک تھے۔“

بالآخر علمی بصیرت کا یہ روشن ستارہ بھی دیگر چمکتے ستاروں کی طرح تین 3 اکتوبر 1999ء کو اردن میں غروب ہو گیا۔ شیخ کے سانحہ ارتحال کے بعد آج ساری دنیا میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو ان کے لیے باعثِ نجات بنائے اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔

﴿ویرحم اللہ عبداً قال آمینا﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حج و عمرہ سے پہلے ضروری ہدایات

از: محدث البانی حفظہ اللہ

ذیل میں چند ایک نصیحت آمیز باتیں درج ہیں۔ حج یا عمرہ شروع کرنے سے پہلے حجاج کرام کو انہیں ملحوظ رکھنا ہوگا۔

۱۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ خدا خونی کو اپنا شعار بنالیں اور حتی المقدور حرام چیزوں سے بچیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا

رَفَتْ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ۱۹۷]

”حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں۔ جو شخص ان میں حج کرنا طے کر لے وہ نہ جنسی گفتگو کرے، نہ اللہ کی نافرمانی کرے اور نہ حج کے دوران لڑائی جھگڑا کرے۔“

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ“ [۱] -

حج مبرور (یعنی مذکورہ شرائط والے حج) کی جزا جنت ہی ہے۔

لہذا مندرجہ ذیل کاموں سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ کیوں کہ بعض لوگ

لاعلمی یا گمراہی کے باعث ان میں مبتلا ہیں:

الف۔ شرک:

بہت سے لوگ غیر اللہ سے فریاد، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انبیاء و صالحین

سے استعانت و دعا کر کے اور احتراماً ان کی قسم اٹھا کر شرک میں مبتلا ہو جاتے

ہیں۔ اس طرح وہ حج جیسے عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ۶۵]

”اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ہر صورت تباہ ہو

جائیں گے۔“

[۱] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب العمرة، وجوب العمرة

وفضلها. [حدیث: ۱۷۷۳]

ب۔ داڑھی منڈوانا:

داڑھی منڈوانا گناہ ہے کیوں کہ اس میں چار لحاظ سے شریعت کی مخالفت

ہے۔

ج۔ سونے کی انگوٹھی پہننا:

سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ خصوصاً جسے آج کل ”مٹکنی کی

انگوٹھی“ کا نام دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں عیسائیوں سے مشابہت بھی

ہے۔

2۔ جو حجاج اپنے وطن سے قربانی کا جانور ساتھ نہ لے جا رہے ہوں وہ حج

تمتع کی نیت کریں [۲] (یعنی احرام پہنتے وقت صرف عمرے کی نیت کریں تاکہ

[۲] آج کل حجاج کا یہی معمول ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی حاجی اپنے ساتھ

قربانی لے جاتا ہے۔ تاہم نبی کریم ﷺ نے ایسے ہی کیا تھا۔ لہذا ایسا کرنے

والے کو روکا نہیں جاسکتا۔ جو لوگ قربانی بھی ساتھ نہیں لے جاتے اور حج



عمرے کے بعد حج کے لئے الگ احرام پہنا جائے) کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام کو آخر میں یہی حکم دیا تھا۔ جن صحابہ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں حج کو عمرے میں فوراً تبدیل نہیں کیا تھا آپ ان پر ناراض ہو گئے تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

”دَخَلَتِ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ [۳-الف]

(قیامت تک کے لئے عمرہ، حج میں شامل ہو گیا ہے)۔

قرآن (ایک احرام کے ساتھ حج و عمرہ) یا حج مُفْرَد کرتے ہیں (یعنی حج کو عمرے کے ساتھ نہیں ملاتے بلکہ صرف حج کا احرام پہنتے ہیں)، اگرچہ یہ بات ان پر گراں گزرے، وہ آپ ﷺ کے قول اور فعل دونوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فتویٰ دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔ صحیح مسلم: کتاب الحج، باب

تقلید الہدی و أشعارہ عندا لإحرام (حدیث ۱۲۴۴)

مسند احمد ص ۳۳۲، ج ۲، ۱۷۱، [حدیث: ۱۵۱۳]

[۳/الف] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب افراد الحج [حدیث ۱۷۹۰]

نیز جب بعض صحابہ نے آپ سے استفسار کیا تھا کہ آیا یہ تمُّحُّص صرف اسی سال کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ تو آپ نے انگیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا تھا:

”دَخَلَتِ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا بَلَّ لِأَبَدٍ

أَبَدٍ، لَا بَلَّ لِأَبَدٍ أَبَدٍ“۔ [ب-۳۱]

(قیامت تک لئے عمرہ، حج کا حصہ بن گیا ہے [اس سال کے لئے] نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لئے [اس سال کے لئے] نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے)۔

اسی بنا پر آپ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور تمام ازواج

مطہرات کو حج کے وقت عمرہ کے بعد احرام سے آزاد ہو جانے کا حکم دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے:

”جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ احرام سے آزاد ہو گیا۔“

[۳ب] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب صفة حج النبی ﷺ [حدیث ۱۹۰۵]

یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے خواہ تمہیں ناگوار گزرے۔“ [۴]

جو حاجی، قربانی ساتھ نہ لے جا رہا ہو وہ حج کے تینوں مہینوں (شوال، ذی قعدہ۔ ذی الحج) میں عمرے کا احرام پہنے۔ جو حج مُفْرَد (یعنی صرف حج کرنے) یا حج قرآن (یعنی حج اور عمرہ ملا کر کرنے) کا احرام پہن چکا ہو پھر اسے نبی کریم ﷺ کا، حج کو عمرے میں بدلنے کا، حکم معلوم ہو جائے اسے فوراً تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اگر مکہ مکرمہ پہنچ کر صفا و مروہ کی سعی بھی کر چکا ہے تب بھی احرام اتار دے اور دوبارہ یومِ ترویہ (یعنی آٹھ ذوالحجہ) کو حج کا احرام پہنے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

[۴] ان کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

”إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّتِكُمْ هَذَا عُمْرَةً، فَإِذَا قَدِمْتُمْ  
فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ الْأَمْنِ كَانَ  
مَعَهُ هَدًى“۔

سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب فی الاقران. [حدیث ۱۸۱]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.....﴾ [الأنفال: ٢٤]

”اے ایمان والو! اللہ ورسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے [۵]

3۔ عرفہ کی رات (یعنی آٹھ اور نو ذوالحجہ کی درمیانی رات) منیٰ میں گزارنا کسی صورت نہ رہے۔ کیونکہ یہ فرض ہے۔ خود نبی کریم ﷺ نے ایسے کیا اور ان الفاظ کے ساتھ ایسا کرنے کا حکم بھی دیا:

[۵] حضرت عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حج مفرد کو افضل قرار دینا اس کے منافی نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے اصل کتاب ”حجۃ النبی ﷺ کما رواھا عنہ جابر“ ملاحظہ ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان کا مقصد، حج کے لئے علیحدہ اور عمرے کے لئے علیحدہ سفر کرنا ہے۔ (مجموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ جلد نمبر ۲۶ میں قابل قدر بحث کی طرف رجوع کریں)

”تُحَدِّثُوا عَنِّي مَنَابِغِكُمْ“۔ (مجھ سے حج کی عبادات سیکھ لو)۔

اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا اور نماز فجر پڑھنے تک ٹھہرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر وہاں رات گزارنا رہ جائے تو نماز فجر وہاں پڑھنا کسی صورت نہ رہے۔ کیونکہ یہ رات گزارنے سے زیادہ اہم ہے۔ بلکہ محققین علماء کے راجح نظر یہ کے مطابق یہ حج کا رکن ہے۔ البتہ عورتیں اور بوڑھے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ آدھی رات کے بعد واپس آسکتے ہیں۔

4۔ مسجد حرام میں نمازی کے سامنے سے گزرنے سے مقدور بھر پرہیز کیا جائے۔ دیگر مساجد میں اس کی ممانعت اور بھی شدید ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ

أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ“۔ [بخاری، حدیث ۵۱]

(اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اس [غلطی] کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ چالیس [سال] تک اس کے سامنے ٹھہرا رہنے کو ترجیح دے)۔

یہ ایک عام حکم ہے جو ہر گزرنے والے اور نمازی کے لئے یکساں ہے۔ مسجد حرام میں گزرنے کے استثناء کی دلیل پایہ صحت کو نہیں پہنچ سکی۔ لہذا اس میں بھی دیگر مساجد کی طرح سترے کا اہتمام ضروری ہے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں وارد احادیث عام ہیں اور اس ضمن میں بعض صحابہ سے آثار بھی منقول ہیں۔

5۔ ارباب علم و دانش کا فرض ہے کہ وہ حجاج کرام کو ہر ممکن مناسک و احکام حج کی تعلیم کتاب و سنت کے مطابق دیتے رہیں۔ حج کی مصروفیت انہیں پیغام توحید لوگوں تک پہنچانے سے نہ روکے یہی اسلام کی اساس ہے اور انبیاء کی بعثت اور کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اکثر و بیشتر علم کے دعوے دار، جن سے ہمیں ملاقات کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وحدانیت کی حقیقت کے ادراک سے حد درجہ کورے پائے گئے۔

اسی طرح اس سلسلہ میں بھی وہ لوگ مکمل غافلانہ کیفیت کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ اور مذہبی اختلافات ہوتے ہوئے بھی انہیں عقائد و احکام، اخلاق و معاشرت اور سیاست و معیشت وغیرہ زندگی کے مختلف

شعبوں میں کتاب و سنت پر مبنی باہمی اتحاد اور شیرازہ بندی کی سخت ضرورت ہے۔ انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس اساس قدیم اور صراط مستقیم سے ہٹ کر اٹھنے والی کوئی بھی آواز یا اصلاحی تحریک مسلمانوں کو انتشار و افتراق اور ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی۔ موجودہ حالات اس پر شاہد عدل ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ۔

بوقت ضرورت احسن پیرائے میں مباحثہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ دوران حج جس مباحثے سے منع کیا گیا وہ غلط بحث و مباحثہ ہے۔ جس سے ممنوعہ فسق و فجور کی طرح دوران حج بھی روک دیا گیا ہے اور حج کے علاوہ بھی۔ لہذا:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]

اور دیگر آیات میں مأمور مباحثہ بالکل مختلف ہے۔ علاوہ ازیں اگر داعی حق کو مخالف سے، اس کے تعصب و عناد کے باعث یہ محسوس ہو کہ مباحثہ بے فائدہ ہے یا اسے مسلسل جاری رکھنے سے ناجائز کے ارتکاب کا اندیشہ ہے تو

اسے گفتگو ترک کر دینی چاہیے۔ کیونکہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَيْضِ الْحَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْحِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا.....“۔

(جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑانہ کرے میں اس کے لئے جنت کے زیریں حصہ میں ایک گھر دیئے جانے کا ضامن ہوں) (۱۶)

بعض کاموں کی شرعی اجازت اور عوام کا حد سے تجاوز

ایک داعی حق کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عام لوگوں کو بالعموم اور حجاج کرام کو بالخصوص آسانی کی راہ دکھانا اپنا فریضہ سمجھے کیونکہ سہولت پیدا کرنا شریعت مطہرہ کا بنیادی اصول ہے۔ یہ اس وقت تک کارفرما رہتا ہے جب تک اس کے مخالف کوئی شرعی حکم ثابت نہ ہو جائے۔ شرعی حکم ثابت ہو جانے پر



بذریعہ قیاس آسانی پیدا کرنا جائز ہے۔ یہ ایک متوسط راستہ ہے جس پر ہر داعی کو کاربند رہنا چاہیے اس کے بعد لوگوں کی مویش گافیوں اور تمبرہ جات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔

کچھ کام بالکل جائز ہیں لیکن بعض حجاج کرام مذکورہ بالا اصول کو بالائے طاق رکھ کر علماء کرام کے جاری کردہ فتاویٰ کے باعث تنگی میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ہم ان کا ذکر مناسب سمجھتے ہیں۔

۱۔ احتلام کے علاوہ عام غسل کے لیے بھی سر کو ملنا:

یہ صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ایوب رضی

اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اکرم ﷺ سے ثابت ہے۔ [۷]

[۷] صحیح بخاری: کتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم. [حدیث:

۱۸۳۰]۔ صحیح مسلم: کتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.

[حدیث: ۱۲۰۵]۔ سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب المحرم یغتسل.

[حدیث: ۱۸۳۰]

۲۔ سر کھجانا:

حالت احرام میں سر کھجانا جائز ہے، خواہ اس سے سر کے کچھ بال بھی گر جائیں۔ یہ بھی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے ثابت ہے اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔

۳۔ بال کٹوا کر سینگی لگوانا:

رسول اللہ ﷺ نے حالت احرام میں سر کے درمیان میں سینگی لگوائی تھی اور یہ بال کٹوائے بغیر ممکن نہیں ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں اور حنبلیوں کا بھی یہی موقف ہے لیکن انہوں نے ایسا کرنے والے پر فدیہ (جانور ذبح کرنا) لازمی قرار دیا ہے، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

بلکہ مذکورہ دلیل کے پیش نظر یہ موقف محل نظر ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے

فدیہ دیا ہوتا تو راوی اسے ضرور بیان کرتا۔ لہذا فدیے کو چھوڑ کر صرف سینگی

کا تذکرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے امام ابن

تیمیر رحمۃ اللہ علیہ کا موقف درست ہے۔

۴۔ خوشبو سونگھنا اور ٹوٹا ہوا ناخن اتارنا:

اس سلسلہ میں کئی آثار موجود ہیں۔

۵۔ خیمے یا کیمپ وغیرہ کے ذریعے سایہ حاصل کرنا:

یہ تو آپ کے دور ہی سے ثابت ہے۔ چھتری کے ذریعے یا کار وغیرہ میں بیٹھ کر سایہ حاصل کرنے پر فدیہ واجب قرار دینا تشدد ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عقل سلیم بھی ان چیزوں میں فرق روا نہیں رکھتی۔ منار السبیل (۱/۲۳۶) کے مطابق امام احمد کی ایک روایت میں بھی ثابت ہے لہذا لوگوں کا کار کی چھت کو اتار کر اس میں سوار ہونا دین میں بے جا تکلف ہے جس کی رب العالمین نے اجازت نہیں دی۔

۶۔ تہبند پر بیلٹ وغیرہ باندھنا یا بوقتِ ضرورت اسے گانٹھ دینا یا

انگوٹھی پہننا:

یہ کام آثار سے ثابت ہیں۔ کلانی گھڑی پہننا۔ عینک لگانا اور گردن میں

پرس وغیرہ لٹکانا بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔

یہ تمام کام مذکورہ بالا اصول کے ذیل میں آتے ہیں۔ بلکہ بعض مرفوع  
آحادیث اور موقوف آثار سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔  
”يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“۔

[البقرة: ۱۸۵]

”اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں اور وہ تمہارے لئے تنگی  
نہیں چاہتے۔“

### احرام سے پہلے

- 1۔ بہتر یہ ہے کہ عازم حج و عمرہ، خواہ عورت ماہواری یا زچگی کے ایام میں ہی  
کیوں نہ ہو، احرام سے پہلے غسل کر لے۔
- 2۔ اس کے بعد اپنی مرضی کے مطابق لباس پہنے۔ بشرطیکہ وہ جسم کے اعضاء  
کے مطابق سلا ہو انہ ہو۔ اسی کو فقہاء اَن سلا لباس کہتے ہیں۔ لہذا مرد چادر اور  
تہبند وغیرہ پہن لے۔ اسی طرح جو تا بھی پہن لے۔ ہر وہ جو تا پہننا جائز ہے  
جو پاؤں کو تحفظ دے اور ٹخنے نہ ڈھکے۔

3- ٹوپی اور پگڑی وغیرہ ایسی چیز نہ پہنے جس کا براہ راست سر سے تعلق ہو۔  
یہ تو ہے مرد کا لباس، لیکن جہاں تک عورت کا تعلق ہے وہ اپنے شرعی لباس  
میں سے کوئی اور چیز نہ اتارے۔ تاہم چہرے پر نقاب، برقعہ اور  
رومال وغیرہ نہ باندھے اور نہ دستا نے پہنے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔  
”محرم قمیص، پگڑی، چوغہ، شلووار اور زعفران و ورس لگا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا اور  
نہ ہی موزے پہن سکتا ہے۔ البتہ اگر جوتا دستیاب نہ ہو تو موزے پہنے جاسکتے  
ہیں۔“ [۸]

”محرم عورت، نہ نقاب پہنے اور نہ دستا نے پہنے۔“ [۹]

[۸] شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”مٹھنوں سے اوپر والا حصہ کاٹنا  
ضروری نہیں کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے پہل کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ بعد میں میدان  
عرفات میں آپ نے اس شخص کو شلووار اور موزے پہننے کی اجازت دے دی تھی جسے تہبند  
اور جوتا میسر نہ ہو۔ علماء کے دو مختلف نظریوں میں سے صحیح ترین نظریہ یہی ہے۔“

[۹] صحیح بخاری: کتاب جزاء الصيد، باب ما ینھی من الطیب للمحرم

عورت اپنا چہرہ ڈھکنے کے لئے دوپٹہ یا چادر اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پر لٹکا سکتی ہے۔ راجح نظریہ کے مطابق چہرے پر کپڑا لگنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ تاہم (مستقل پردے کی حیثیت سے) چہرے پر باندھ نہیں سکتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔

**4۔** میقات (یعنی مقررہ جگہ) سے پہلے، حتیٰ کہ گھر سے بھی، احرام پہنا جاسکتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ نے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس میں بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرنے والے حجاج کے لئے آسانی بھی ہے۔ کیوں کہ وہ میقات کے عین موقعہ پر احرام نہیں پہن سکتے۔ لہذا وہ لباس احرام میں جہاز پر سوار ہو سکتے ہیں۔ تاہم انہیں چاہئے کہ وہ میقات پر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے حالت احرام اختیار کر لیں۔ تاکہ کہیں وہ میقات سے احرام کی نیت کے بغیر نہ گزر جائیں۔

**5۔** مرد اپنی پسند کی کوئی خوشبو لگائیں، بشرطیکہ وہ رنگین نہ ہو، البتہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ کیونکہ ان کے لئے رنگ دار بلا خوشبو چیز ہی لگانا جائز ہے۔ نیز یہ بھی میقات پر پہنچ کر احرام کی نیت کرنے سے پہلے پہلے ہے۔ اس

کے بعد سب کے لیے حرام ہے۔

### احرام اور اس کی نیت

6- میقات پر پہنچنے کے بعد حالت احرام میں آنا فرض ہے اور اس کے لئے دل میں پہلے سے موجود حج کا قصد و ارادہ نا کافی ہے۔ کیونکہ ارادہ تو شہر سے نکلنے وقت بھی موجود تھا۔ بلکہ زبان اور عمل کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب حاجی احرام کی نیت سے تَلْبِيَةِ (لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ.....) کہے گا تو وہ محرم ہو جائے گا۔

7- تَلْبِيَةِ سے پہلے کسی قسم کے الفاظ، مثلاً اے اللہ! میں حج اعمرو کرنا چاہتا ہوں اسے میرے لئے آسان کر اور قبول فرما وغیرہ، ادا نہ کیے جائیں۔ کیوں کہ یہ نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں، اس کی حیثیت بعینہ وضوء، نماز اور روزے سے پہلے نیت باللفظ کرنے کی سی ہے اور یہ سب بعد کی پیداوار ہیں۔

جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا مشہور ارشاد گرامی ہے:

”..... دین میں ہر نو پیدا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر

گمراہی کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔“

میقات (احرام پہننے کی مقررہ جگہ)

8- میقات پانچ ہیں:

2. جُحْفَه

1. ذُو الْحُلَيْفَةِ

4. يَلْمَلَمَ

3. قَرْنُ الْمَنَازِلِ

5. ذَاتِ عِرْقٍ

یہ میقات یہاں رہنے والوں اور یہاں سے یا ان کے برابر سے حج و عمرہ کی نیت سے گزرنے والوں کے لئے ہیں۔ جو لوگ ان سے آگے مکہ کی طرف رہتے ہیں ان کی احرام گاہ ان کے گھر ہی ہیں۔ یہاں تک کہ اہل مکہ، مکہ مکرمہ ہی سے احرام پہنیں گے۔

ذُو الْحُلَيْفَةِ:

یہ اہل مدینہ کا میقات ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے بارہ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔

ایک بستی ہے اور یہ مکہ مکرمہ سے تمام میقاتوں سے زیادہ دور ہے۔ مکہ مکرمہ اور



اس کے درمیان چار سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کئی راستے جاتے ہیں۔ اسے وادی عقیق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہاں کی مسجد کو ”مسجد شجرہ“ کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں ہے جسے ناواقف لوگ ”چاہ علی“ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں جنوں کو قتل کیا تھا اور یہ سفید جھوٹ ہے۔

مُحَمَّد:

یہ بھی ایک بستی ہے۔ اس کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان تین مراحل (186 کلومیٹر) کا فاصلہ ہے۔ یہ شام اور مصر والوں کا میقات ہے۔ ایک دوسرے راستے سے یہ اہل مدینہ کا بھی میقات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ میقات شام، مصر اور مغرب کی سمت سے آنے والے تمام عازمین حج و عمرہ کے لئے ہیں۔ یہ آج کل بے آباد ہے۔ لہذا لوگ اس سے پہلے ہی ”زایغ“ نامی جگہ سے احرام پہن لیتے ہیں۔

## قرنِ منازل:

اسے قرنِ ثعالب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ اہل نجد کا میقات ہے۔ اسے آج کل سیلِ کبیر کہا جاتا ہے۔  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ

یہ مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ اہل یمن کا میقات ہے۔ ☆

## ذاتِ عرق:

یہ جنگل میں واقع ایک جگہ ہے اور نجد و تہامہ کے درمیان حدِّ فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ عراق والوں کا میقات ہے۔

☆ ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے جانے والوں کا بھی یہی میقات ہے۔ (مترجم)

## حج تمتع کے متعلق رسول اللہ کا فرمان:

9۔ احرام کی نیت کے وقت اگر قارین (یعنی حج اور عمرہ اکٹھا کرنے والا) ہو

اور جانور ساتھ لارہا ہو تو یہ الفاظ کہے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ“

”میں حاضر ہوں، اے اللہ! حج و عمرہ کی نیت ہے۔“

اور اگر قربانی ساتھ نہ لایا ہو، افضل طریقہ بھی یہی ہے، تو بہر صورت صرف

عمرے کا نام لے کر لبیک کہے گا اور الفاظ یہ ہوں گے:

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ“

”میں حاضر ہوں، اے اللہ! عمرے کا ارادہ ہے۔“

اگر حج مفرد کا نام لے کر لبیک کہہ چکا ہو تو اسے کالعدم قرار دے کر عمرے

میں تبدیل کرے گا۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہی حکم ہے۔ آپ ﷺ کا

فرمان ملاحظہ ہو:

”ذَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“

”قیامت تک عمرہ حج میں شامل ہو گیا ہے۔“

یہ کہتے ہوئے آپ نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا۔

نیز آپ کا فرمان ہے:

”بَا آلَ مُحَمَّدٍ! مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهَلِّ بِعُمْرَةٍ فِي

حَجَّةٍ“۔ [۱۰]

”اے آل محمد! تم میں سے جو شخص حج کرے اسے عمرہ بمعہ حج کا

احرام پہننا ہوگا“۔

اس کا نام حج تمتع (یعنی عمرے اور حج کے درمیان احرام کی پابندیاں نہ

ہونے سے فائدہ اٹھانا) ہے۔

شرط بندی:

اگر بیماری یا جنگ جیسے کسے عارضے کا اندیشہ ہو تو محرم مشروط طور پر

بھی لبیک کہہ کر نیت کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں تعلیم نبوی کے مطابق یہ الفاظ

ادا کرے:

[۱۰] مسند احمد [حدیث ۲۶۶۹۳] ج ۶ ص ۳۱۷۔ صحیح ابن حبان: کتاب

الحج، باب التمتع، [حدیث ۳۹۲۰]

”اللَّهُمَّ مَجِّلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي“ - [۱۱]

”اے اللہ! جہاں تو مجھے روک دے گا وہاں میری آزاد گاہ ہوگی۔“

اگر کوئی شخص مشروط احرام پہنے، پھر اسے بیماری یا کوئی مجبوری لاحق ہو جائے تو وہ اپنے حج و عمرہ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نہ اس پر کوئی ہرجانہ عائد ہوگا اور نہ ہی اس پر آئندہ سال حج فرض ہوگا۔ البتہ اگر وہ فرض حج کے لئے جا رہا تھا تو اس کی قضا ضروری ہوگی۔

11۔ احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ البتہ اگر احرام سے پہلے کسی نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز پڑھ لے پھر احرام کی نیت کرے۔ یہ اسوہ رسول ﷺ بھی ہے۔ کیوں کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد احرام پہنا تھا۔  
وادی عقیق میں نماز پڑھنا:

12۔ جن حجاج کا میقات ذُو الْحَلِيفَةِ ہو (یعنی وہ مدینہ منورہ

[۱۱] صحیح مسلم: کتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل

بعذر۔ [حدیث ۱۲۰۷]

کی طرف سے آرہے ہوں) ان کے لئے وادی عقیق میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یہ نماز احرام کی وجہ سے نہیں بلکہ جگہ کی خصوصیت اور برکت کے باعث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ وادی عقیق میں فرما رہے تھے:

”آج رات میرے پروردگار کی طرف سے آنے والے نے آ کر مجھے کہا ہے کہ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں اور عمرہ مع حج کی صدا دیں۔“

حضرت (عبداللہ) ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کے متعلق روایت کیا ہے کہ:

”جب آپ ذوالخلیفہ میں شکم وادی میں خیمہ زن تھے آپ کو خواب میں کہا گیا کہ آپ ایک بابرکت وادی میں (مقیم) ہیں۔“ [۱۲]

[۱۲] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب قول النبی ﷺ ”العقیق

وادی مبارک“۔ [حدیث ۱۵۳۴]

### بلند آواز سے لبّیک کا ورد کرنا

13- (میقات سے روانگی کے وقت) قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے [۱۳] اور عمرہ یا حج مع عمرہ کا نام لے کر (نمبر ۹ میں) بیان کردہ طریقے کے مطابق لبّیک کہے اور یہ الفاظ بھی ادا کرے:

”اللَّهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً“۔ [۱۳]

”اے اللہ! یہ ریا و نمود اور شہرت سے پاک حج ہے۔“

14- نبی کریم ﷺ کے تلبیہ والے الفاظ ادا کیئے جانے چاہئیں۔ (اور وہ دو طرح ہیں)

أ۔ ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ“۔

[۱۳] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب الاہلال مستقبل القبلة، میں معلق

روایت ہے۔ (حدیث ۱۵۵۳) اور بیہقی نے اسے متصل ذکر کیا ہے۔

[۱۴] اسے ضیاء مقدسی نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

”حاضر یا اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، میں بار بار حاضر، ہر قسم کی تعریف، نعمت اور بادشاہی تجھے ہی سزاوار ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔“

آپ ان الفاظ میں کوئی اضافہ نہیں فرماتے تھے۔

ب۔ ”لَبَّيْكَ يَا إِلَهَ الْحَقِّ“۔ ”اے معبود برحق میں حاضر ہوں۔“

15۔ آپ ﷺ کے الفاظ کی پابندی کرنا افضل ہے۔ اگرچہ اضافہ کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ان الفاظ کا اضافہ کرنے والوں کی توثیق فرمائی تھی:

”لَبَّيْكَ يَا الْمَعَارِجُ، لَبَّيْكَ يَا الْفَوَاضِلُ“۔

حضرت (عبداللہ) ابن عمر رضی اللہ عنہما اس میں ان الفاظ کا اضافہ کیا کرتے تھے:

”لَبَّيْكَ يَا سَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ

وَالْعَمَلُ“۔ [۱۵]

[۱۵] صحیح مسلم: کتاب الحج، باب التلبیة، وصفتها و وقتها۔ [حدیث: ۱۱۸۴]



16- تلبیہ باواز بلند کہا جانا چاہئے کیوں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اصحاب و رفقاء کو باواز بلند تلبیہ کہنے کا حکم دوں“۔ [۱۶]

نیز آپ کا ارشاد ہے:

”افضل حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ ہو اور کثرت سے قربانیاں ہوں“۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوران حج بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ ”رَوْحَاءُ“ پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام کی آوازوں سے فضا گونج اٹھتی تھی۔ [۱۷]

[۱۶] سنن ترمذی: کتاب الحج، باب ماجاء فی رفع الصوت

بالتلبیة. [حدیث: ۸۲۹] ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

[۱۷] مخلی ص ۹۴ ج ۷ میں ہے کہ اسے سعید بن منصور نے اچھی سند کے ساتھ ذکر

کیا ہے۔ فتح الباری ص ۳۲۳ ج ۳ میں ہے کہ اسے ابن ابی شیبہ نے مطلب بن عبد اللہ سے صحیح سند کے ساتھ مرسل روایت کیا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دورا ہے سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔“ [۱۸]

لبیک کہنے میں مرد اور عورت برابر ہیں کیوں کہ مذکورہ بالا دونوں حدیثیں عام ہیں۔ لہذا عورتیں آواز بلند کر سکتی ہیں بشرطیکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی آواز اس قدر بلند کرتیں کہ وہ مردوں کو سنائی دیتی۔ حضرت عطیہؓ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ:

”مجھے رسول اللہ ﷺ کے لَبَّيْكَ کہنے کا انداز بخوبی معلوم ہے۔“

(عطیہ کہتے ہیں کہ) پھر میں نے انہیں ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“

[۱۸] صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب الاسراء برسول اللہ ﷺ

السموات و فرض الصلوات. [حدیث: ۱۶۶] اور تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو

السلسلة الصحیحة (حدیث نمبر: ۲۰۲۳)۔

..... کہتے ہوئے سنا“۔ [۱۹]

قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دس ذوالحجہ کو واپس ہوئے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز سن کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟۔ انہیں بتلایا گیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تنعمیم سے عمرہ کے لئے آرہی ہیں۔ جب یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں خود انہیں بتاتی۔ [۲۰]

18۔ حجاج کرام لَبَّيْكَ کا ورد پابندی سے کریں۔ کیوں کہ یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ ”لبیک کہنے والے کے ساتھ تمام حجر و شجر تا حد زمین دائیں بائیں ہر طرف سے لبیک کہتے ہیں“۔ [۲۱]

[۱۹] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب التلبیة. [حدیث: ۱۵۵۰]

[۲۰] مٹلی ص ۹۴، ۹۵ ج ۷ کے مطابق اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عورت اس قدر آواز بلند کر سکتی ہے کہ وہ اس کی رفقاء کو سنائی دے“۔

[۲۱] صحیح ابن خزیمہ: کتاب الحج، باب ذکر تلبیة الأشجار

والأحجار. [حدیث: ۲۶۳۴]

بالخصوص جب بلندی پر چڑھنا ہو یا ڈھلوان میں اترنا ہو (تو اس کی پابندی کریں) کیوں کہ ابھی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ:

”گویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دورا ہے سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محو را ہیں۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ”گویا میں انہیں ڈھلوان میں اترتے ہوئے لَبَّيْكَ کہتے دیکھ رہا ہوں۔“ [۲۲]

19- لَبَّيْكَ کے ساتھ کلمہ توحید بھی ملا یا جا سکتا ہے۔ حضرت (عبد اللہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا۔ آپ بڑے جمرہ (ستون) کو رمی کرنے (یعنی کنکریاں مارنے) تک لَبَّيْكَ کہتے رہے اور بسا اوقات کلمہ توحید کو ساتھ ملا لیتے، [۲۳]

[۲۲] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب التلبیة اذا انحدر فی الوادی.

[حدیث: ۱۰۰۰]

[۲۳] مسند احمد [حدیث: ۳۹۶۱] ص ۳۱۷ ج ۱۔ حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح قرار

دیا ہے۔

20- حرم مکی پہنچنے پر جب مکہ مکرمہ کے درو دیوار پر نگاہ پڑے تو لَتَيْتِكَ کہنا ترک کر دے تاکہ اسے مندرجہ ذیل کاموں کے لئے فراغت مل سکے: [۲۴]

### مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل

21- مکہ مکرمہ میں سنت نبوی کے مطابق دن کے وقت داخل ہونا چاہیے۔  
داخل ہونے سے پہلے جو شخص نہا سکتا ہونا لے۔ [۲۵]

22- مکہ مکرمہ میں بالائی جانب سے داخل ہونا چاہیے جہاں آج کل ”باب معلّٰة“ ہے کیوں کہ آپ ﷺ بالائی دورا ہے ”مِنْتِيہ كَدَاء“ سے داخل ہوئے تھے [۲۶] جو قبرستان کی بالائی جانب ہے۔ آپ ﷺ مسجد (حرام) میں ”باب بنی شیبہ“ سے داخل ہوئے تھے۔ حجر اسود کی طرف جانے کے لئے نزدیک ترین راستہ بھی یہی ہے۔

[۲۴] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب الاہلال مستقبل القبلة۔ [حدیث: ۱۵۵۳]

[۲۵] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة۔ [حدیث: ۱۵۷۳]

[۲۶] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب من أين يدخل مكة۔ [حدیث: ۱۵۷۵]

23- حجاج جس راستے سے چاہیں آسکتے ہیں کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”مکہ مکرمہ کی ہر گلی راستہ اور قربان گاہ ہے“۔ ایک دوسری حدیث اس طرح ہے کہ ”پورا مکہ مکرمہ راستہ ہے۔ کسی بھی جگہ سے آیا اور جایا جاسکتا ہے“۔ [۲۷]

24- مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے رکھنا [۲۸] اور یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“۔ یا یہ دعا پڑھ لیں۔

”أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ،

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“۔ [۲۹]

25- اگر چاہے تو کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھالے یہ حضرت (عبداللہ) ابن

[۲۷] اسے فاکہی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (مصنف)

[۲۸] سلسلہ احادیث صحیحہ (حدیث ۲۳۷۸) میں مصنف نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

[۲۹] سنن ابوداؤد: کتاب الصلاة باب فيما يقوله الرجل عند دخوله

المسجد (حدیث ۴۶۶)

عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ [۳۰]

26- اس موقع پر نبی کریم ﷺ سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ لہذا حاجی جو دعا پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہے:

”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، فَحِينَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ“۔

کیوں کہ یہ دعا ان سے ثابت ہے۔ [۳۱]

### طواف زیارت

27- اس کے بعد حجر اسود کی طرف جائے، اس کی طرف رخ کر کے ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے۔ اس سے پہلے ”بِسْمِ اللَّهِ“ پڑھنا حضرت (عبداللہ) ابن عمر رضی

[۳۰] اسے ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ ان سے موقوف روایت کیا ہے۔

جب کہ دیگر محدثین نے اسے ضعیف سند کے ساتھ مرفوع بیان کیا ہے۔ (مصنف)

[۳۱] سنن کبریٰ بیہقی: ج ۲/۷۲ ج ۵۔ اس کی سند حسن ہے۔ (مصنف)۔

اللہ عنہ کے قول کے طور پر ثابت ہے۔ اسے مرفوع بیان کرنے والوں کو مغالطہ ہوا ہے۔

28- حجر اسود پر ہاتھ پھیرے اور منہ کے ساتھ اسے بوسہ دے اور اس پر سجدہ بھی کرے۔ رسول اللہ ﷺ، حضرت عمر اور حضرت (عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایسے ہی کیا تھا۔ [۳۲]

29- اگر اسے بوسہ نہ دے سکتا ہو تو اس پر ہاتھ پھیرے اور ہاتھ کو بوسہ دے دے۔

30- اگر ہاتھ بھی نہ پھیر سکتا ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دے۔

31- حجر اسود پر رش کا باعث نہ بنے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت

[۳۲] ”المناسک والزیارات“ کے حاشیے میں فاضل دوست نے کہا ہے کہ یہ

بات نبی کریم ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔ جب کہ انہیں مغالطہ ہو گیا ہے۔ میں نے ارواء

الغلیل (۱۱۱۲) میں اس کے درست ہونے کے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے۔ الحمد للہ

اب وہ طبع ہو چکی ہے۔ (مصنف)



عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا: ”اے عمر! تم طاقت ور آدمی ہو۔ لہذا جب تم حجرِ اسود کا استلام کرنا (یعنی اسے بوسہ دینا یا اس پر ہاتھ پھیرنا) چاہو تو کسی کمزور کو تکلیف نہ دینا۔ اگر خالی جگہ مل جائے تو بہتر و گرنہ اس کی طرف منہ کر کے ”اللہ اکبر“ کہہ دینا۔“ [۳۳]

حجرِ اسود کی فضیلت:

33- حجرِ اسود کو استلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آں حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجرِ اسود کو دو آنکھیں اور زبان دے کر بھیجے گا اور وہ صدق دل کے ساتھ استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا۔“ [۳۳]

[۳۳] مسند احمد: [حدیث: ۱۹۰] ص ۲۸ راج۔ مصنف نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے۔

[۳۳] صحیح ابن خزیمہ: کتاب الحج، باب فضل استلام الرکبتین۔ [حدیث: ۲۷۲۹]

نیز فرمایا: ”حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانا گناہوں کو ختم کر دیتا ہے [۳۵]

”حجر اسود جنت سے اترتا ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔

لوگوں کی غلط کاریوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔“ [۳۶]

طواف کا طریقہ:

34۔ اس کے بعد کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھتے ہوئے اس کا طواف کرے۔ عظیم (یعنی کعبہ کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے) کے اوپر سے گزر کر سات چکر لگائے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر (بنتا) ہے۔ ان سب۔ چکروں میں اِظْطَبَاع کرے۔ (یعنی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے گزار کر اس کے دامن کو بائیں کندھے کے اوپر رکھے اور دایاں کندھا برہنہ رکھے) پہلے

[۳۵] جامع ترمذی: کتاب الحج، باب ماجاء فی الحجر الأسود.

[حدیث: ۹۶۱] صحیح ابن خزیمہ: کتاب المناسک۔ باب ذکر صفة الحجر یوم

القیامة [حدیث: ۲۷۳۵] ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

[۳۶] جامع ترمذی: کتاب الحج، باب ماجاء فی فضل الحجر الاسود

والرکن والمقام [حدیث: ۸۷۷] اور صحیح ابن خزیمہ کتاب المناسک،

باب ذکر العلة التي من سببها اسود الحجر [حدیث: ۲۷۳۳]

تین چکروں میں حجر اسود سے رکن یمانی تک رمل کرے (یعنی نزدیک نزدیک قدم رکھ کر تیز چلے) اور باقی میں معمول کے مطابق چلے۔

35- ہر چکر میں رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور اسے بوسہ نہ دے۔ اگر ہاتھ نہ پھیر سکتا ہو تو اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔

36- رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے:

”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً“ - [۳۷]

37- باقی دونوں شامی کونوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی میں نبی کریم ﷺ کی

اتباع ہے۔ [۳۸]

[۳۷] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب الدعاء فی الطواف [حدیث: ۱۸۹۴]

[۳۸] شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”استلام“ ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں۔

تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بیت اللہ کی دیگر تمام اطراف، مقام، روئے زمین پر پائی

جانے والی باقی تمام مساجد اور ان کی دیواریں، انبیاء و صالحین کی قبریں، مثلاً ہمارے پیارے

پیغمبر ﷺ کا حجرہ، غار ابراہیم، نبی کریم ﷺ کی جائے نماز اور صخرہ بیت المقدس وغیرہ کو نہ استلام

کیا جائے اور نہ ہی انہیں بوسہ دیا جائے۔ ان کا طواف کرنا تو اور بھی بڑی بدعت ہے۔ جو شخص

عبادت سمجھ کر ایسا کرے اس سے توبہ کرائی جائے اور اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ =

حجر اسود اور دروازے کے درمیان چمٹنا:

38- حاجی کو چاہیے کہ وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان چمٹ جائے۔

اپنا سینہ، چہرہ اور کلائیاں اس پر لگا دے۔ [۳۹]

39- طواف کے لئے کوئی دعا مخصوص نہیں ہے لہذا تلاوت قرآن مجید یا کوئی دعا اپنی مرضی سے کی جاسکتی ہے۔ آل حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

= عبد الرزاق (۸۹۴۵)، احمد اور بیہقی نے یعلیٰ بن امیہ کے حوالے سے کیا ہی خوب روایت کیا ہے، ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کیا۔ جب حجر اسود سے متصل دروازے والے کونے پر پہنچا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر استلام کروانا چاہا تو انہوں نے فرمایا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں نے کہا: کیا تھا۔ وہ فرمانے لگے: کیا تم نے انہیں اس کا استلام کرتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں! تو انہوں نے فرمایا: پھر اس سے اجتناب کیجئے۔ کیوں کہ رسول اللہ ﷺ ہی تمہارے لئے نمونہ ہیں۔

[۳۹] یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے دو سندوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس طرح

یہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک =

”بیت اللہ کا طواف نماز کی حیثیت رکھتا ہے البتہ اس کے دوران بات کرنا جائز ہے۔ جو شخص بات کرنا چاہے بھلائی ہی کی بات کرے۔“

= جماعت کا عمل اسے مزید تقویت دیتا ہے۔ جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان ملتزم (چھٹنے جگہ) ہے۔ علاوہ ازیں حضرت عروہ بن زبیر کا عمل بھی اسی طرح ثابت ہے۔ اس کی تفصیل سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (حدیث نمبر ۲۱۳۸) میں موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مناسک (ص ۳۸۷) میں فرماتے ہیں کہ اگر ملتزم کے پاس پہنچ کر، جو کہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والا حصہ ہے، اپنا سینہ، چہرہ، ہاتھ اور کلائیاں اس کے اوپر لگا کر دعا کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

یہ کام طواف و دعاء سے پہلے بھی کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ چھٹنا الوداعی موقعہ پر یا کسی اور موقعہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہی ایسے کر لیا کرتے تھے۔

نیز اگر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر بیت اللہ سے چٹ کر دعا کرے تو یہ بھی خوب ہے۔ لیکن جب فارغ ہو تو نہ ٹھہرے اور نہ جھانکتا رہے اور نہ ہی الٹے پاؤں چلے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ:

”اس کے دوران باتیں کم کیا کرو“۔ [۴۰]

ماہواری کی حالت میں عورت طواف نہ کرے:

40- برہنہ آدمی یا حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔

آں حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے“۔ [۴۱]

نیز آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حجۃ الوداع کے موقع پر،

جب وہ عمرہ کے لئے آئیں، ارشاد فرمایا تھا:

[۴۰] جامع ترمذی: کتاب الحج، باب ما جاء فی الکلام فی الطواف

[حدیث: ۹۶۰] صحیح ابن خزیمہ: کتاب المناسک، باب الرخصة فی التکلم بالخیر

فی الطواف [حدیث: ۲۷۳۹] حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ مصنف نے بھی

ارواء الغلیل (۱۲۱) میں سیر حاصل بحث کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے۔

[۴۱] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب لا یطوف بالبيت عریان. [حدیث: ۱۶۲۲]

”سب کام ایک عام حاجی کی طرح کرو۔ لیکن پاک ہونے سے

پہلے بیت اللہ کا طواف نہ کرنا“۔ [۴۲]

41- ساتواں چکر مکمل ہونے پر کندھا ڈھک لے اور مقام ابراہیم کے

پاس پہنچ کر یہ آیت پڑھے:

﴿إِتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ - [البقرہ: 125]

”مقام ابراہیم کو نماز گاہ بناؤ“۔

42- مقام ابراہیم کو اپنے اور کعبہ کے درمیان لا کر دو رکعت نماز پڑھے۔

43- ان دو رکعتوں میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ

أَحَدٌ﴾ تلاوت کرے۔

44- یہاں بھی نہ تو خود کسی نمازی کے سامنے سے گزرے اور نہ ہی کسی کو

دوران نماز اپنے سامنے سے گزرنے دے۔ [۴۳] کیوں کہ اس سے منع

[۴۲] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب تقضى الحائض المناسك كلها الا

الطواف بالبيت. [حدیث: ۱۶۵۰]

[۴۳] تفصیل کے لئے مقدمہ ملاحظہ ہو۔

کرنے والی احادیث عام ہیں۔ مسجد حرام یا پورے مکہ مکرمہ کا استثناء ثابت نہیں ہو سکا۔

### آب زم زم کی فضیلت

45۔ نماز سے فراغت کے بعد چاہ زم زم کی طرف جائے اور آب زم زم پیئے اور اسے سر پر انڈیلے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”آب زم زم ہر مقصد (کے حصول) کے لئے پیا جاسکتا ہے۔“ [۴۴]

نیز فرمایا:

”یہ بابرکت (پانی) ہے۔ بھوکے کے لئے کھانا ہے اور بیمار کا علاج ہے۔“ [۴۵]

مزید فرمایا:

”روئے زمین پر سب سے بہتر پانی آب زم زم ہے اس میں

[۴۴] مسند احمد: [حدیث: ۱۲۸۴] ص ۳۵۷ ج ۳۔ محدثین کی ایک جماعت نے

اسے صحیح کہا ہے۔ تفصیل کیلئے ارواء الغلیل (۱۱۲۳) ملاحظہ ہو۔

[۴۵] مسند طیالسی: (۲۵۷)۔ مصنف نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔



بھوک (والے) کے لئے کھانا اور بیماری کا علاج ہے۔“ [۳۶]  
 46۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس آ کر اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہے اور مذکورہ بالا تفصیل  
 کے مطابق اس کا استلام کرے (یعنی اسے بوسہ دے یا اس پر ہاتھ پھیرے)۔

### صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا

47۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے لئے انہی قدموں پر واپس  
 آجائے۔ صفا کے نزدیک آ کر یہ آیت مبارکہ پڑھے۔

﴿إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ  
 اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا  
 فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۵۸]

”بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔  
 جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں

[۳۶] معجم اوسط طبرانی: [حدیث: ۳۹۱۲] ص ۱۴۰ ج ۳۔ ط دار الفکر عمان، مصنف

نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

کا چکر لگائے۔ اور جو شخص رضا و رغبت سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ  
قدر دان ہے، جاننے والا ہے۔“

اور یہ الفاظ کہے:

”نَبِّدْأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ“۔ (ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں  
سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا)

48۔ صفا سے شروع کرے اور اس پر اتنی بلندی پر چڑھے کہ کعبہ نظر آنے  
لگے۔ [۴۷]

49۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے  
یہ دعا پڑھے۔

”اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ“

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

[۴۷] کعبۃ اللہ کو صفا سے دیکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ البتہ مسجد کی دوسری منزل کے ستونوں

کے درمیان سے اسے دیکھا جاسکتا ہے لہذا اگر دیکھا جاسکے تو بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں۔\*

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“  
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ  
 عِبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“.

آخری دعائیں مرتبہ پڑھے اور اس دوران دعا بھی کرے۔ [۴۸]

50۔ پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے (یعنی دوڑنے) کے لئے نیچے  
 اترے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”دوڑو، اللہ تعالیٰ نے تم پر دوڑنا فرض کیا ہے“۔ [۴۹]

51۔ دائیں اور بائیں جانب لگے ہوئے (سبز) نشان تک معمول کی رفتار  
 سے چلے۔ یہ نشان سبز پٹی کے نام سے مشہور ہے۔ پھر وہاں سے بعد والے  
 دوسرے نشان تک تیز دوڑے۔ نبی کریم ﷺ کے دور میں یہاں گہری ندی تھی

[۴۸] یعنی توحید کے ورد کے درمیان دنیا و آخرت کی جو چاہے دعا کرے۔ البتہ رسول

اللہ ﷺ اور اسلاف میں سے کسی سے ثابت شدہ دعا کرنا افضل ہے۔

[۴۹] مسند احمد: [حدیث: ۲۷۳۶۸] ص ۴۲۱، ج ۶، مصنف نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

اور اس میں باریک کنکریاں تھیں۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”ندی کو دوڑ کر ہی عبور کیا جائے“۔ [۵۰]

پھر سیدھا بالائی جانب چلتا جائے اور مزوہ تک پہنچنے کے بعد اس کی چوٹی پر چڑھ جائے۔ یہاں بھی قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور توحید کا ورد اور دعا وغیرہ وہ سب کام کرے جو اس نے صفا پر کیے تھے۔ یہ ایک چکر شمار ہوگا۔

52۔ پھر واپس آ کر صفا پر چڑھے۔ چلنے کی جگہ چلے اور دوڑنے کی جگہ دوڑے۔ یہ دوسرا چکر ہے۔

53۔ پھر مروہ کی طرف جائے۔ سات چکر مکمل ہونے تک اسی طرح کرتا رہے۔ آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔

54۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سواری پر بیٹھ کر بھی چکر لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن پیدل چلنے کو نبی کریم ﷺ نے زیادہ پسند کیا ہے۔ [۵۱]

[۵۰] سنن نسائی: کتاب مناسک الحج، باب السعی فی بطن المسیل

[حدیث: ۲۹۸۰] سے مصنف نے صحیح قرار دیا ہے۔

[۵۱] بقول مصنف، ابو نعیم نے اسے مستخرج علی صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔

55۔ اگر دوران سعی ان الفاظ میں دعا کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں:

”رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ“۔

”اے میرے رب! بخش دیں اور رحم فرمائیں کیوں کہ آپ بہت عزت والے اور بہت کرم والے ہیں“۔

یہ دعا تمام سلف صالحین سے ثابت ہے۔ [۵۲]

56۔ ساتواں چکر مکمل ہونے کے بعد سر کے بال کٹوائے۔ [۵۳] اس

کے ساتھ ہی ”عمرہ“ مکمل ہو گیا اور احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو گئیں۔  
عمرہ کرنے کے بعد:

57۔ عمرہ کرنے کے بعد آٹھ ذوالحجہ تک اسی طرح (آزاد) حالت میں رہے۔

[۵۲] مصنف ابن ابی شیبہ [حدیث: ۱۵۵۶۰] ص ۴۰۴ ج ۳ ط دارالکتب

العلمیہ۔ مصنف نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

[۵۳] اگر عمرہ اور حج کے دوران اتنا وقفہ ہو کہ بال بڑھ سکتے ہوں تو منڈوائے بھی

جا سکتے ہیں۔ فتح الباری ص ۴۴۴ ج ۳۔

58۔ جس شخص نے احرام کے وقت نہ تو حج کے عمرے کی نیت کی ہو اور نہ ہی وہ قربانی ساتھ لایا ہو اسے بھی احرام اتار دینا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کی اتباع اور آپ کی ناراضگی سے بچاؤ اسی میں ہے۔ البتہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو وہ اپنے احرام ہی میں رہے گا اور قربانی کے دن سے پہلے آزاد نہیں ہوگا۔

### یومِ ترویہ (8 ذوالحجہ) کو حج کا احرام پہننا

59 (ا)۔ آٹھ ذوالحجہ کو احرام پہنے اور حج کا نام لے کر لَبَّيْكَ کہے، غسل، خوشبو، چادر اور تہبند کا پہننا وغیرہ وہ سب کام کرے جو اس نے عمرے کے احرام کے لئے میقات پر کیے تھے۔ تَلْبِيْه (یعنی لبیک کہنا) شروع کر دے اور بڑے جمرہ کو رمی کرنے (یعنی کنکریاں مارنے) کے بعد تک مسلسل لَبَّيْكَ۔۔۔ کہتا رہے۔

59 (ب)۔ احرام، اپنی رہائش گاہ سے پہننے۔ حتیٰ کہ مکہ والے مکہ ہی سے پہنیں۔

60۔ اس کے بعد منیٰ میں پہنچ کر وہاں نمازِ ظہر پڑھے۔ وہیں رات بسر

کرے۔ پانچوں نمازیں وہیں پڑھے۔ قصر کرے (یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے) لیکن جمع نہ کرے۔

### میدان عرفات کی طرف روانگی

61- 9 رذوالحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد ”لَبَّيْكَ“ اور ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے ہوئے میدان عرفات کی طرف چل پڑے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دونوں طرح ہی کیا تھا۔ بعض ”لَبَّيْكَ“ کہتے تھے اور بعض ”اللَّهُ أَكْبَرُ“۔ لیکن کسی کو منع نہ کیا جاتا۔ [۵۴]

62- پھر ”عُرْفَةُ“ پہنچ کر رک جائے۔ یہ عرفات کے نزدیک ایک جگہ ہے، عرفات کا حصہ نہیں ہے۔ زوال سے پہلے تک یہیں ٹھہرا ہے۔

63- زوال آفتاب سے کچھ پہلے ”عُرْفَةُ“ کی طرف چل پڑے اور وہاں

[۵۴] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى إلى مكة

بھی ٹھہرے [۵۵] - یہ جگہ عرفات سے تھوڑا سا پہلے آتی ہے۔ یہاں امام لوگوں کو موقعہ محل کی مناسبت سے خطبہ دیتا ہے۔

64- اس کے بعد امام، لوگوں کو ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع کراتے ہوئے ظہر کے وقت میں پڑھاتا ہے۔

65- دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور دو تکبیریں کہی جاتی ہیں۔

66- دو نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھنا چاہئے۔ [۵۶]

67- جو شخص امام کے ساتھ نمازیں نہ پڑھ سکے وہ اکیلا ہی پڑھ لے یا پھر

[۵۵] آج کل شدت ازدحام کے باعث یہ اور بعد والا قیام مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا سیدھا ”عرفات“ چلے جانے میں کوئی حرج نہیں (مصنف)

[۵۶] اسی طرح، اس موقعہ پر اور باقی سفروں میں بھی (ان نمازوں کے ساتھ)

اور ظہر اور عصر کے بعد بھی آپ ﷺ سے نفل (یعنی سنت) پڑھنا ثابت نہیں۔ بلکہ فجر کی

دو سنتوں اور وتر کے علاوہ دیگر مسنونہ رکعتوں میں سے کچھ بھی پڑھنا آپ سے ثابت

نہیں ہے۔



اپنے جیسے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ مل کر باجماعت پڑھ لے۔ [۵۷]

### میدان عرفات میں قیام

68۔ اس کے بعد میدان عرفات میں چلا جائے اور اگر ہو سکے تو ”جبل

رحمت“ کے دامن میں قیام کرے۔ وگرنہ پورے کا پورا میدان قیام گاہ ہے۔

69۔ قیام کے دوران قبلہ رخ رہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا رہے اور

لَبَّيْكَ --- کہتا رہے۔

70۔ جس قدر ہو سکے ”لَبَّيْكَ“ کا ورد کرے۔ یوم عرفات کی بہترین دعا

یہی ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے عرفات کی سہ پہر سب سے

افضل دعا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،

[۵۷] بخاری نے اسے تعلقاً ذکر کیا ہے: کتاب الحج، باب الجمع بین

الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ. [حدیث: ۱۶۶۲]

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ پڑھی ہے۔ [۵۸]

71۔ اگر کبھی کبھی لبیک کہتے ہوئے ”إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ“ کا اضافہ کرے تو جائز ہے۔

72۔ عرفات کا قیام کرنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

73۔ اسی طرح ذکر کرتا رہے۔ لبیک کہتا رہے اور من پسند دعائیں کرتا رہے۔ امید کے اس عالم میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزاد کردہ بندوں میں شامل کر دے گا۔ جن کا نام وہ فرشتوں کے سامنے فخر و مباہات سے لیتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ:

”یوم عرفات سے بڑھ کر کسی بھی روز اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے زیادہ آزادیاں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نزدیک تر فرشتوں کے

[۵۸] مصنف نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن یا صحیح ہے۔ اور اس کی کئی سندیں ہیں۔

ان سب کا تذکرہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۱۵۰۳) میں موجود ہے۔

سامنے فخریہ انداز میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اور فرماتا ہے: ”ان لوگوں کا منشا کیا ہے؟“۔ [۵۹]

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ، آسمان والوں کے سامنے اہل عرفات کا تذکرہ فخر و مباہات کے ساتھ کرتے ہوئے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو! کیسے گرد آلود ہو کر خستہ حالت میں آئے ہیں“۔ [۶۰]

غروب آفتاب تک اسی حالت میں رہے۔

[۵۹] صحیح مسلم: کتاب الحج، باب فضل یوم عرفہ۔ [حدیث: ۱۳۴۸]

[۶۰] مسند احمد: [حدیث: ۸۰۴۷] ص ۳۰۵ ج ۲، محدثین کی ایک جماعت نے

اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (مصنف)

### میدانِ عرفات سے روانگی

74- غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مُزْدَلِفَہ کی طرف اطمینان اور سکون کے ساتھ روانہ ہو۔ لوگوں کو اپنی وجہ سے یا سواری کی وجہ سے بھیڑ میں مبتلا نہ کرے۔ اگر راستہ خالی ہو تو جلدی بھی کر سکتا ہے۔

75- مزدلفہ پہنچ کر اذان اور تکبیر کہے اور مغرب کی تین رکعت پڑھے۔ پھر اذان اور تکبیر کہے اور عشا کی نماز قصر کر کے پڑھے اور ان دونوں کو جمع کرے۔

76- اگر کسی ضرورت کے پیش نظر دونوں کے درمیان وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

77- مغرب اور عشا کے درمیان بھی کچھ نہ پڑھے اور بعد میں بھی۔

78- پھر فجر تک سویا رہے۔

79- فجر ہوتے ہی اول وقت میں اذان اور تکبیر کہہ کر نماز فجر پڑھ لے۔

### مزدلفہ میں نماز فجر

80- تمام حاجیوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز فجر ”مزدلفہ“ ہی میں ادا کریں۔ البتہ بوڑھوں اور عورتوں کے لئے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے آدھی رات کے بعد آنا جائز ہے۔

81- پھر مشعر حرام (یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے) کے پاس آئے۔ اس پر چڑھے۔ قبلہ رخ ہو کر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، اللّٰہُ اَكْبَرُ اور لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کا ورد کرے اور جب تک خوب روشنی نہ ہو جائے دعا کرتا رہے۔

82- ”مزدلفہ“ سب کا سب موقف ہے۔ جہاں بھی قیام کر لیا جائے درست ہے۔

### 10 ذوالحجہ کی عبادات

83- پھر طلوع آفتاب سے پہلے لَبَّيْكَ... کہتے ہوئے اطمینان کے ساتھ ”منیٰ“ کو چلا جائے۔

84- ” بطنِ محشر“ پہنچ کر، جو کہ منیٰ میں داخل ہے، حتیٰ الامکان تیز ہو جائے۔

85- اس کے بعد درمیانہ راستہ اختیار کرے یہ اسے ”جمرہ عقبہ“ (یعنی آخری ستون) تک لے جائے گا۔

رَمَى كَرْنَا (کنکریاں مارنا)

86- ”جمرہ عقبہ“ جو سب سے آخری اور مکہ کے نزدیک ترین جمرہ (ستون) ہے۔ اسے مارنے کے لئے کنکریاں لے لے۔

87- جمرہ کی طرف اس طرح رخ کرے کہ ”مکہ مکرمہ“ بائیں طرف اور ”منیٰ“ دائیں طرف ہو۔

88- اسے، سفید پختے سے ذرا بڑی سات کنکریاں مارے۔

89- ہر کنکری کے ساتھ ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے۔ [۶۱]

90- آخری کنکری پر لَبَّيْكَ کہنا ختم کر دے۔ [۶۲]

[۶۱] ”اللہ اکبر“ کے ساتھ ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا“ کا اضافہ ثابت نہیں ہے۔

تفصیل کے لئے ”سلسلة الأحاديث الضعيفة“ (حدیث نمبر ۱۱۰۷) ملاحظہ ہو۔

[۶۲] صحیح ابن خزیمہ: کتاب المناسک، باب قطع التلبیہ اذار منیٰ الحاج جمرة

العقبہ یوم النحر. [حدیث: ۲۸۸۷] ص ۱۳۵۸- ج ۲

91- حاجی خواہ عورتوں اور کمزور مردوں میں ہی کیوں نہ شامل ہو، جن کے لئے نصف شب کے بعد مزدلفہ سے روانگی جائز ہے، اسے طلوع آفتاب کے بعد رمی کرنی چاہیے۔ کیونکہ مزدلفہ سے نصف شب کے بعد روانگی کا جواز اپنی جگہ ہے اور رمی کرنا اپنی جگہ۔ [۶۳]

92- اگر زوال سے پہلے تنگی محسوس کرے تو زوال کے بعد شام تک رمی کر سکتا ہے۔

93- جمرہ کو رمی کرنے کے بعد ”میاں بیوی کے تعلق“ کے علاوہ اس سے احرام کی ہر پابندی اٹھ جائے گی، اگرچہ قربانی بھی نہ کی ہو اور سر کے بال بھی نہ منڈوائے ہوں، لہذا وہ عام لباس پہن سکتا ہے اور خوشبو لگا سکتا ہے۔

94- لیکن اگر وہ اسی حالت میں رہنا چاہے تو اس کے لئے اسی دن ”طوافِ افاضہ“ کرنا ضروری ہے۔ وگرنہ اگر شام تک طواف نہ کر سکا تو پہلے کی طرح دوبارہ حُرْم ہو جائے گا اور اسے عام لباس اتار کر احرام پہننا پڑے گا۔

[۶۳] تفصیل کے لئے میری اصل کتاب ملاحظہ ہو۔ (مصنف)



نام کتاب : مناسک حج و عمرہ (کتاب و سنت کی روشنی میں)  
مولف : محدث العصر شیخ محمد ناصر الدین البانی (رحمہ اللہ)  
مترجم : ڈاکٹر عبدالرحمن یوسف  
صفحات : ۱۰۸  
ناشر : مرکز عمرین عبدالعزیز ڈیفنس، کراچی

اصلاح السنت  
ASLIHLESUNNET

:: [www.AsliAhleSunnat.com](http://www.AsliAhleSunnat.com) ::



= صحت تک پہنچنے کا حتمی فیصلہ دے سکتا ہے۔ لیکن چون کہ یہ ایک ایسی کتاب (معانی الآثار۔ طحاوی) میں مذکور ہے جو اکثر لوگوں کے ہاں متداول نہیں ہے اس لئے یہ میری طرح ان کے نظروں سے اوجھل رہی اور انہوں نے اسے بنظر تعجب دیکھا اور اسے ضعیف کہنے میں عجلت کی۔ نیز اس معاملہ میں ان کا حوصلہ ان علماء نے بھی بڑھا دیا جنہوں نے کہا تھا کہ ”میرے علم میں کوئی فقیہ اس کا قائل نہیں ہوا“۔ حالانکہ یہ ایک نفی ہے جو عدم علم کا دوسرا نام ہے۔ جب کہ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی چیز سے لاعلمی اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ لہذا جب آں حضرت ﷺ کی حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے اور ہو بھی اس طرح واضح تو اس پر عمل کرنا فوراً واجب ہو جاتا ہے۔ اہل علم کا موقف معلوم کرنے پر اسے موقوف قرار نہیں دیا جاسکتا۔

امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”حدیث ثابت ہوتے ہی قابل عمل ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا مصداق

ائمہ کے ہاں پہلے سے رائج نہ بھی ہو۔ کیوں کہ حدیث رسول ﷺ بذات

خود حجت ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری چیز پر عمل کی گنجائش نہیں رہتی۔“

رسول اللہ ﷺ کی حدیث عمل فقہاء کی گواہی سے کہیں بلند و برتر ہے۔ کیوں کہ =

یہ مستقل اور فیصلہ کن ذریعہ علم ہے۔ یہ محکوم نہیں ہے۔ علاوہ ازیں تابعی جلیل عمرو بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل علم کی ایک جماعت نے اسے حدیث پر عمل بھی کیا ہے۔ تو کیا اس کے بعد اس حدیث پر عمل پیرا ہونے میں کوئی عذر رہ جاتا ہے۔ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ اس اجمال کی تفصیل محولہ بالا کتاب میں موجود ہے۔

حجاج کے لئے ”حجرہ کی رمی“ دیگر مسلمانوں کی نماز عید کے قائم مقام ہے۔ امام احمد نے اس بنا پر اہل منی کے قربانی کے وقت کو دیگر شہروں میں نماز عید کے لئے مستحب سمجھا ہے۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ میں نماز عید کے بعد خطبہ دینے کے معمول کے مطابق قربانی کے دن حجرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد خطبہ دیا تھا۔ لہذا لفظی عموم یا قیاس آرائی کے بل بوتے منی میں نماز عید کو مستحب قرار دینا غلطی اور سنت سے تغافل کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ منی میں نہ تو نبی کریم ﷺ نے نماز عید پڑھی اور نہ آپ کے خلفاء نے۔

ملاحظہ ہو: فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۱۸۰ ج ۲۶۔

## قربانی

95۔ اس کے بعد ”منیٰ کی قربان گاہ“ میں پہنچ کر قربانی کرے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔

96۔ البتہ ”منیٰ“ میں کسی دوسری جگہ یا مکہ مکرمہ میں قربانی کرنا جائز ضرور ہے۔ اس حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”میں نے اس جگہ قربانی کی ہے۔ مکہ مکرمہ کی ہر گلی، راستہ اور

قربان گاہ ہے۔ تم اپنے گھروں میں بھی قربانی کر سکتے ہو۔“ [۶۵]

97۔ اگر ہو سکے تو قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اور سنت بھی یہی ہے۔ بصورت دیگر کسی دوسرے کو کہہ دے۔

[۶۵] اس حدیث میں جہاں حجاج کرام کے لئے بہت بڑی سہولت کا فرما ہے

وہاں قربان گاہ میں قربانیوں کے متعفن ہو جانے کی پریشانی سے نجات کا سامان بھی

ہے۔ نیز ارباب اختیار کے لئے قربانیوں کو مجبوراً دفن کرنے سے چھٹکارا بھی۔ تفصیل

کے لئے اصل کتاب (حجۃ النبی) ملاحظہ ہو۔

98۔ قربانی کا جانور قبلہ رخ کر کے ذبح کیا جائے۔ [۶۶] اسے بائیں

پہلو پر لٹا دیا جائے اور دائیں پہلو پر دایاں قدم رکھ دیا جائے۔ [۶۷]

99۔ اونٹ کو، بایاں گھٹنا باندھ کر تین پاؤں پر کھڑا کر کے ذبح کرنا سنت

[۶۶] سنن کبریٰ بیہقی (ص ۲۸۵ ج ۹) کتاب الضحایا، باب السنة فی أن  
یستقبل بالذبیحة القبلة۔ مصنف عبدالرزاق (۸۵۸۵) میں حضرت عبداللہ بن عمر  
سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ ایسے جانور کا گوشت کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ  
رخ کر کے ذبح نہ کیا گیا ہو۔

[۶۷] حافظ ابن حجر نے فتح الباری ص ۱۶ ج ۱۰ میں کہا ہے کہ اس سے ذبح کرنے  
والے کے لئے دائیں ہاتھ سے چھری پکڑنے اور بائیں ہاتھ سے سر پکڑنے میں آسانی  
رہتی ہے۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے۔ (مصنف)۔

صحیح بخاری: کتاب الأضاحی 'باب ذبیح الأضاحی بیدہ۔ [حدیث: ۵۵۵۸] صحیح  
مسلم: کتاب الأضاحی 'باب استحباب الضحیة و ذبیحہا مباشرة بلا توکیل

والتسمية والتكبير. [حدیث: ۱۹۶۶]

ہے۔ [۶۸] اسے بھی قبلہ رخ کھڑا کیا جائے۔ [۶۹]

100۔ اونٹ یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے:

”بِسْمِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُمَّ اِنِّ هٰذَا مِنْكَ وَ لَكَ ، [۷۰]

اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي“ [۷۱]

101۔ عید کے چاروں دنوں (یعنی عید کا دن اور تین ایام تشریق) میں قربانی

کی جاسکتی ہے۔ کیوں کہ آل حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

[۶۸] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک ، باب کیف تنحر البدن.

[حدیث: ۱۷۶۷]، مصنف نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

[۶۹] بخاری نے اسے کتاب الحج ، (۱۰۶) باب من أشعر وقلدبذی

الحلیفہ ثم احرم. میں معلق ذکر کیا ہے۔

[۷۰] سنن ابوداؤد: کتاب الضحایا ، باب ما یتحب من الضحایا.

[حدیث: ۲۷۹۵]

[۷۱] صحیح مسلم : کتاب الاضاحی ، باب استحباب استحسان الضحیة

وذبھما مباشرة بلا توکیل والتسمیة والتکبیر. [حدیث: ۱۹۶۶]

”تمام ایام تشریق (گیارہ، بارہ اور تیرہ ذوالحجہ) میں قربانی کرنا

جائز ہے۔“ [۷۲]

102- حاجی اپنی قربانی میں سے کھائے بھی اور اپنے وطن لے کر بھی آئے۔

رسول اکرم ﷺ نے ایسے ہی کیا تھا۔

103- قربانی میں سے تنگ دستوں اور حاجت مندوں کو ضرور کھلائے۔

اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، لَكُمْ فِيهَا

خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، فَإِذَا وَجَبَتْ

جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾

[الحج: ۳۶]

[۷۲] مسند احمد: [حدیث: ۱۶۷۵۱] ص ۸۲/ج ۳۔ مصنف نے اسے ”سلسلہ“

”الأحادیث الصحیحہ“ میں مفصل ذکر کیا ہے دیکھئے حدیث نمبر: ۲۴۷۶۔

”اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لئے شعائر الہی میں سے مقرر کیا ہے۔ تمہارے لئے ان میں بڑی بھلائی ہے تو انہیں صرف بستہ کر کے ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت پسند محتاجوں اور سالکوں کو کھلاؤ۔“

104۔ اونٹ اور گائے کی قربانی میں سات افراد شامل ہو سکتے ہیں۔

105۔ جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو وہ دوران حج تین اور گھر پہنچ کر سات روزے رکھے۔

106۔ تشریق کے تینوں دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ اور

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں کا بیان ہے کہ:

”ایام تشریق کے دوران حج کی قربانی نہ کر سکنے والوں کے سوا

کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔“ [۷۳]

[۷۳] صحیح بخاری: کتاب الصوم، باب صیام ایام التشریق -

[حدیث: ۱۹۹۷-۱۹۹۸] (فتح الباری) ص ۲۱۱ ج ۴۔

107- قربانی کے بعد سر کے بال منڈوائے یا کتر والے۔ پہلا طریقہ افضل ہے۔ کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”اے اللہ! سر منڈوانے والوں پر مہربانی فرما۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کتر وانے والوں کے لئے بھی دعا کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! سر منڈوانے والوں پر مہربانی فرما۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کتر وانے والوں کے لئے بھی دعا فرمائیں۔ حتیٰ کہ چوتھی بار آپ ﷺ نے فرمایا: کتر وانے والوں پر بھی مہربانی فرما“۔ [۷۴]

108- حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق سنت یہ ہے کہ مونڈنے

[۷۴] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب الحلق و التقصیر عند الاحلال.

[حدیث: ۱۷۲۷]

صحیح مسلم: کتاب الحج، باب تفصیل الحلق علی التقصیر و جواز التقصیر.

[حدیث: ۱۳۰۱]



کا آغاز دائیں طرف سے کیا جائے۔ [۷۵]

109۔ سرمنڈوانا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورتیں اس میں شامل نہیں

ہیں۔ وہ صرف کتر واکتے ہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”عورتیں سرمنڈوانا نہیں سکتیں۔ وہ صرف بال کتر واکتے۔“ [۷۶]

لہذا عورتیں بال اکٹھے کر کے کچھ انگلیوں کے برابر ان میں سے کتر دیں۔

[۷۷]

[۷۵] صحیح مسلم: کتاب الحج، باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم

ينحصر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس

المحلق. [حدیث: ۱۳۰۵]

[۷۶] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب الحلق والتقصير. [حدیث:

۱۹۸۵]، مصنف نے اسے صحیح ابوداؤد (۱۷۳۲) میں ذکر کیا ہے۔

[۷۷] شیخ الإسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ”اگر حاجی قصر کرنا (یعنی بال

کتر واکتے) چاہے تو بال اکٹھے کر کے ان میں سے انگلیوں کے برابر یا اس سے کم ویش بال

کتر دے۔ جب کہ عورت اس سے زیادہ نہیں کتر سکتی اور مرد جس قدر بال چاہے کتر سکتا ہے۔

110۔ امام کے لئے قربانی کے دن منیٰ [۷۸] میں حجرات کے درمیان

[۷۹] چاشت کے وقت [۸۰] خطبہ دینا مسنون ہے۔ جس میں وہ حاجیوں کو

باقی ماندہ عبادات کی تعلیم دے گا۔ [۸۱]

[۷۸] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب الخطبة أيام منى. [حدیث: ۱۷۳۹]

[۷۹] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب يوم الحج الأكبر. [حدیث

: ۱۹۴۵] مصنف نے اسے صحیح ابوداؤد (۱۷۰۰) میں شامل کیا ہے۔

[۸۰] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب ای وقت یخطب يوم النحر.

[حدیث: ۱۹۵۶] مصنف نے اسے صحیح ابوداؤد (۱۷۰۹) میں شامل کیا ہے۔

## طوافِ افاضہ

111- پھر اسی دن بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائے اور طواف زیارت میں بیان کردہ طریقے کے مطابق اس کے سات چکر لگائے۔ البتہ اس طواف میں اضطباع (یعنی بائیں کندھے کو برہنہ رکھنا) اور زممل (قریب قریب قدم رکھتے ہوئے تیز چلنا) نہ کرے۔ [۸۱]

112- ”مقامِ ابراہیم“ کے پاس دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ امام زہری اس کے قائل تھے۔ [۸۲]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا [۸۳] اور

[۸۱] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب ما یدکر الإمام فی خطبة بمعنی۔

[حدیث: ۱۹۵۷] مصنف نے اسے صحیح ابوداؤد (۱۷۱۰) میں شامل کیا ہے۔

[۸۲] بخاری نے اسے کتاب الحج، (۶۹) باب صلی النبی ﷺ لسبوعہ

مہر کعتین میں معلق ذکر کیا ہے۔

فرمایا ”ہر سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز مقرر ہے“۔ [۸۴]

113۔ اس کے بعد بیان کردہ طریقے کے مطابق صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے۔ البتہ قارن (یعنی حج اور عمرہ کو ایک ہی احرام کے ذریعے ادا کرنے والا) اور مفرد (یعنی صرف حج کرنے والا) سعی نہیں کریں گے۔ بلکہ ان کے لئے پہلی سعی ہی کافی ہے۔

114۔ اس طواف کے بعد احرام کی وجہ سے حرام شدہ ہر کام حتیٰ کہ مردوزن کا تعلق بھی، حاجی کے لئے جائز ہو جائے گا۔

115۔ اس دن (یعنی دس ذوالحجہ کو) نماز ظہر مکہ مکرمہ میں پڑھے جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ”منیٰ“ میں پڑھے۔ [۸۵]

116۔ اس کے بعد چاہے زم زم کے پاس پہنچ کر آب زم زم پیئے۔

[۸۴] مصنف عبدالرزاق (۹۰۱۲) اس کی سند صحیح ہے (مصنف)۔

[۸۵] واللہ اعلم رسول اللہ ﷺ کا ذاتی عمل کیا تھا۔ امکان ہے کہ آپ ﷺ نے دو مرتبہ نماز پڑھائی ہو۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بطور فرض اور دوسری مرتبہ منیٰ میں بطور نفل جیسا کہ یہ طریق کار بعض غزوات میں آپ سے ثابت ہے۔ (مصنف)۔

منیٰ میں رات بسر کرنا اور 11، 12، 13 ذوالحجہ کی عبادات

117۔ اس کے بعد منیٰ میں واپس چلا جائے اور ”تشریق“ کے شب و روز وہیں گزارے۔

118۔ وہاں پر روزانہ تینوں جمرات کو زوال کے بعد سات سات کنکریاں لگائے۔ اس کا طریقہ (۹۴-۸۶ نمبر) میں بیان ہو چکا ہے۔

119۔ ”جرہ اولیٰ“ سے ابتدا کرے جو ”مسجد خیف“ کے نزدیک ترین ہے۔ اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دائیں جانب تھوڑا سا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر تادیر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ [۸۷]

121۔ پھر تیسرے جمرہ کے پاس آجائے۔ اسے ”جرہ عقبہ“ بھی کہتے ہیں۔ اسے اس طرح کنکریاں مارے کہ بیت اللہ بائیں اور منیٰ دائیں سمت پر ہو۔ اس کے پاس دعا کے لئے نہ ٹھہرے۔ [۸۸]

[۸۶-۸۷-۸۸] یہ طریق کار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں موجود ہے۔ صحیح بخاری: کتاب الحج، باب اذا رمی الجمرتين يقوم ويُسهل

مستقبل القبلة. [حدیث: ۱۷۵۱]

لہذا بعض کتابوں میں ”جرہ عقبہ“ کو رمی کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا ذکر اس صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ (۴۸۶۳) ملاحظہ ہو۔

122۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی مذکورہ بالا طریقے کے مطابق تینوں جمرات کو کنکریاں مارے۔

123۔ اگر دوسرے دن کنکریاں مارنے کے بعد واپس آجائے اور تیسرے دن کی رنی کے لیے منیٰ میں نہ ٹھہرے تو یہ بھی جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ﴾

[البقرة: ۲۰۳]

تاہم رنی کے لئے ٹھہرنا افضل ہے کیوں کہ اس حضرت ﷺ نے ایسے ہی

کیا تھا۔ [۸۹]

124۔ مذکورہ بالا عبادات میں ترتیب نبوی اس طرح ہے:

= کنکریاں مارنا

[۸۹] شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر منیٰ میں غروب آفتاب کا وقت

ہو جائے تو حاجی وہیں ٹھہر جائے اور تیسرے دن لوگوں کے ساتھ مل کر رمی کرے۔

= قربانی کرنا

= طوافِ افاضہ کرنا

= صفا و مروہ کی سعی کرنا (صرف حج تمتع کرنے والے کے لئے)۔

اگر ان مناسک میں تقدیم و تاخیر کر دے تو جائز ہے۔ کیوں کہ آپ ﷺ

نے تقدیم و تاخیر کرنے کے بعد پوچھنے والوں کو فرمایا تھا۔ ”کوئی حرج نہیں۔

کوئی حرج نہیں۔“

125۔ معذور کے لئے مندرجہ ذیل طریقے بھی جائز ہیں۔

۱۔ منیٰ میں رات نہ گزارنا :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ

نے حجاج کو پانی پلانے کی ذمہ داری کے پیش نظر رسول اللہ ﷺ سے منیٰ کی راتیں مکہ

مکرمہ میں گزارنے کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ [۹۰]

[۹۰] صحیح بخاری : کتاب المناسک، باب سقایۃ الحاج۔ [حدیث:

صحیح مسلم: [۱۶۳۴] کتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنی لیلالی أيام

التشريق و الترخيص فی ترکہ لأهل السقایة. [حدیث: ۱۳۱۵]

ب۔ دو دن کی کنکریاں ایک دن مارنا:

عاصم بن عدی کا بیان ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے اونٹوں کے چرواہوں کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ قربانی کے دن رمی کریں اور بعد والے دنوں کی رمی ایک ہی دن کر لیں“۔ [۹۱]

ج۔ معذور، رات کے وقت بھی کنکریاں مار سکتا ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے ”چرواہا رات کو کنکریاں مارے اور بعد والے دنوں کی کنکریاں ایک ہی دن مار لیں“۔ [۹۱]

آپ ﷺ کا فرمان ہے ”چرواہا رات کو کنکریاں مارے اور دن کے وقت

[۹۱] سنن ابوداؤد: کتاب المناسک، باب فی رمی الجمار۔

[حدیث: ۱۹۷۵] مصنف نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ارواء الغلیل میں

حدیث نمبر ۱۰۸۰ ملاحظہ ہو۔



گلہ بانی کرے۔“ [۹۲]

126۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے رات کے وقت جانا اور منیٰ کی راتوں میں سے اس کا طواف کرنا مسنون ہے۔ [۹۳]

127۔ ”ایام منیٰ“ کے دوران حجاج کو پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنی چاہئیں۔ اگر ہو سکے تو نمازیں ”مسجد خیف“ میں ادا کی جائیں کیونکہ افضل یہی ہے۔ نیز آپ ﷺ کا فرمان ہے:

[۹۲] سنن کبریٰ بیہقی ۵/۱۵۱۔ سنن دارقطنی ص ۲۷۹۔ مسند بزار ۱۱۳۹۔ مذکورہ بالا تمام کتابوں کی سندیں ضعیف ہیں۔ لیکن مصنف نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر ۲۳۷۷ کے ذیل میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ص ۶۲۲ ر ج ۵۔

[۹۳] مشکل الآثار طحاوی ص ۳۹۱ ر ج ۱۔ سنن کبریٰ بیہقی ص ۱۳۶ ر ج ۵۔ مصنف نے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ (ص ۳۵۶ ر ج ۲) میں حدیث نمبر ۸۰۴ کے ذیل میں اس کی مفصل تخریج کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس کے راوی صحیح مسلم والے ہیں۔

”مسجد خیف میں ستر انبیاء نے نماز پڑھی ہے“۔ [۹۴]

128۔ تشریح کے دوسرے یا تیسرے روز کنکریاں مارنے سے فارغ ہوتے ہی مناسک حج مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حاجی مکہ مکرمہ چلا جائے اور جتنی دیر ہو سکے وہاں قیام کرے۔ نماز باجماعت کا۔ بالخصوص مسجد حرام میں۔ مکمل خیال رکھے۔

[۹۴] طبرانی، ضیاء مقدسی اور منذری نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے کیونکہ اس کی

ایک دوسری سند بھی موجود ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تحذیر الساجد من

اتخاذ القبور مساجد۔

## بیت اللہ میں طواف اور نماز کا ثواب

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

”میری مسجد کی ایک نماز، مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کی نسبت، ہزار درجہ افضل ہے۔ اور مسجد حرام کی ایک نماز باقی مساجد سے لاکھ درجہ افضل ہے۔“ [۹۵]

129۔ دن رات جب چاہے کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہے اور طواف کرتا رہے۔

آپ ﷺ نے حجر اسود اور رکن یمانی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔  
”ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا مداوا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اٹھنے اور نیچے لگنے والے ہر قدم کے عوض

[۹۵] مسند احمد: [حدیث: ۱۳۶۹۳] ص ۳۹۷، ۳۳۳، ج ۳۔ مصنف نے اسے ارواء الغلیل (ص ۳۳۱، ج ۴) میں حدیث نمبر ۱۱۲۹ کے ذیل میں صحیح قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک غلطی معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جو شخص ایک ہفتہ (اس طرح) کرتا ہے وہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔“ [۹۶]

نیز آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”اے عبد مناف کی اولاد! کسی شخص کو اس گھر کا طواف کرنے سے نہ روکو۔ دن رات جب بھی کوئی چاہے اس میں نماز

[۹۶] جامع ترمذی: کتاب الحج، باب ماجاء فی استلام الرکنین .  
 [حدیث: ۹۵۹] صحیح ابن خزیمہ: کتاب المناسک، باب فضل استلام الرکنین  
 و ذکر حط الخطا یا بمسحها . [حدیث: ۲۷۲۹] صحیح ابن حبان: کتاب الحج،  
 باب ذکر رفع الدرجات و کتب الحسنات و حط السئیات بخطا الطائف  
 حول البیت العتیق . [حدیث: ۳۶۹۷] متدرک حاکم۔ اس کی تفصیل مشکوٰۃ  
 المصابیح: کتاب المناسک، باب دخول مکة و الطواف . [حدیث نمبر ۲۵۸۰]  
 کی تخریج میں ملاحظہ ہو۔

پڑھے۔“ [۹۷]

### طوافِ وِدَاع

130۔ اپنی ضروریات کی تکمیل اور واپسی کا عزم کر لینے کے بعد بیت اللہ شریف کا ”الوداعی طواف“ کرے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے واپس چلے جایا کرتے تھے تو نبی کریم ﷺ نے حکماً فرمایا:

”بیت اللہ کے ساتھ آخری تعلق طواف کی صورت میں استوار کئے بغیر کوئی شخص واپس نہ جائے۔“ [۹۸]۔

[۹۷] اسے اصحاب سنن نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کتاب الحج، باب ماجاء فی الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. [حدیث: ۸۶۸] حاکم اور ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ارواء الغلیل حدیث نمبر ۴۸۱۔

[۹۸] صحیح مسلم: کتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. [حدیث: ۱۳۲۷] تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ارواء الغلیل حدیث نمبر ۱۰۸۶۔

131۔ پہلے پہل حائضہ عورت کو پاک ہونے تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تاکہ وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ [۹۹] بعد میں اسے انتظار کئے بغیر واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ:

”نبی کریم ﷺ نے حائضہ عورت کو طواف سے پہلے جانے کی

اجازت فرمادی تھی۔ بشرطیکہ وہ طوافِ افاضہ کر چکی ہو“۔ [۱۰۰]

132۔ تبرک کے طور پر بقدر استطاعت آب زم زم بھی ساتھ لایا جائے کیونکہ رسول اللہ ﷺ مشکیزوں اور دیگر برتنوں میں آب زم زم لایا کرتے تھے۔ اسے مریضوں پر چھڑکتے اور انہیں پلایا کرتے تھے۔ [۱۰۱]

بلکہ آپ ﷺ قیامِ مدینہ کے دوران فتح مکہ سے پہلے سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجتے تھے کہ:

[۹۹] ایضاً۔

[۱۰۰] صحیح بخاری: کتاب الحج، باب اذا حاضت المرأة بعد ما افاضت.

[حدیث: ۱۷۶۰] سنن دارمی ج ۲ ص ۷۲۔

”ہمیں آب زم زم کا ہدیہ بھیجنا کس صورت نہ بھولنا“۔

لہذا وہ ان کی طرف دو مشکیں بھیج دیتے۔ [۱۰۲]

133۔ طواف وداع سے فراغت کے بعد جس طرح عام مسجدوں سے باہر نکلتے ہیں، نکل آئے، اٹے پاؤں نہ چلے۔ بایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

فَضْلِكَ“۔ [۱۰۳]

[۱۰۱] اسے امام بخاری نے ”تاریخ کبیر“ باب الخاء۔ [حدیث: ۶۳۹۳۵۳۳] ص ۱۶۷ ج ۳ میں ذکر کیا ہے جب کہ امام ترمذی نے کتاب الحج، باب ۱۱۳۔ [حدیث: ۹۶۳] میں اسے حضرت عائشہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: ”الأحادیث الصحیحہ“ حدیث نمبر ۸۸۳۔

[۱۰۲] سنن کبریٰ بیہقی (ج ۵ ص ۲۰۲) میں اس کی سند (جید) ہے۔ مصنف عبد

الرزاق (۹۱۷) میں اس کا ایک شاہد بھی موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ہمارے اسلاف ایسے کرتے چلے آئے ہیں۔

[۱۰۳] اس کا حوالہ اسی کتاب کے ۲۴ نمبر کے ذیل میں ملاحظہ ہو۔

### مسجد نبوی اور دیگر مقامات کی زیارت

- 1- حج سے پہلے یا اس کے بعد مسجد نبوی کی زیارت اور اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے جائیں۔ مسجد نبوی کی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مساجد سے ایک ہزار درجہ افضل ہے۔
- 2- مسجد نبوی میں پہنچ کر دو رکعت نماز بطور ”تحیۃ المسجد“ ادا کریں۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھائی جا رہی ہو تو جماعت میں شامل ہو جائیں۔
- 3- نماز سے فراغت کے بعد نبی کریم ﷺ کی ”قبر مبارک“ کے پاس جائیں اور ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ“ کہہ کر ہدیہ سلام پیش کریں۔
- 4- اس کے بعد اپنی دائیں طرف ایک یا دو قدم اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں۔ پھر دائیں طرف ایک یا دو قدم اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام کہیں۔

- 5- اس کے بعد مدینہ منورہ کے قبرستان ”بلقیع غرقہ“ میں جائیں اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما اور دیگر مدفون صحابہ و تابعین اور اولیاء کرام کو



جا کر سلام کہیں۔

6۔ اس سے فراغت کے بعد ”جبل احد“ کی زیارت کے لیے جائیں۔ وہاں

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء احد کی قبریں ہیں۔ انہیں بھی سلام

کہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں۔

## حج اور عمرہ کی دعائیں

حج کے احرام کی دعا

1- ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ“۔

عمرے کے احرام کی دعا

1- ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ“۔

مشروط احرام کے الفاظ

1- ”اللَّهُمَّ مَجَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي“۔ [صحیح

مسلمہ: حدیث ۱۶۰۷]

احرام پہننے کے بعد دوران سفر کعبہ شریف تک پہنچنے کے

## درمیان کی دعائیں

- 1- ”لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ  
لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ“۔
- 2- ”لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ“۔
- 3- ”اَللّٰهُمَّ هَذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةً“۔

مسجد حرام مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا

- 1- ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ  
لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“۔
- 2- ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِ الْكَرِيْمِ،  
وَسُلْطٰنِهِ الْقَدِيْمِ، مِنْ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ“۔

کعبہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا

- 1- ”اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا  
بِالسَّلَامِ“۔

طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا  
 ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً“۔

مقام ابراہیم کی دعا

﴿ اِتَّخِذْ وَا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمِ مُصَلًّی ۝﴾۔

صفا و مروہ کی دعا

1۔ ﴿ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ  
 حَجَّ الْبَيْتِ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطُوْفَ بِهَمَا وَمَنْ  
 تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝﴾۔

صفا و مروہ پر کھڑا ہو کر قبلہ رخ ہو کر یہ دعا میں پڑھے  
 (الف)۔ ” اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ  
 اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ يُحْيِي  
 وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“۔

(ب) ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ  
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ“۔

(ج) ”رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ“۔

### میدان عرفات کی دعا

1- ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“۔

2- زیادہ سے زیادہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ورد کرے۔

3- إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرٌ الْآخِرَةِ۔

### مشعر حرام کی دعا

1- الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ

2- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

### کنکریاں مارتے وقت کی دعا

1- ہر کنکری کے ساتھ صرف ”اللَّهُ أَكْبَرُ“ کہے۔

اونٹ یا کوئی اور جانور ذبح کرتے وقت کی دعا

1- ”بِسْمِ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ، اللّٰهُمَّ اِنِّ هَذَا مِنْكَ وَ لَكَ ،  
اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي“ -

مسجد حرام، مسجد نبوی اور دیگر مساجد سے نکلنے کی دعا

1- ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ ، اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ“ -